

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Saturday, August 13, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad, at 5.45 of the clock in the evening, with Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QURAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ  
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
النَّارِ فَاَلْقَدَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

(سورہ آل عمران ۱۰۳)

ترجمہ: اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس  
میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم  
پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ  
دیئے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے  
بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے  
بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے  
شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Saturday, August 13, 1988

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), Islamabad, at 5.45 of the clock in the evening, with Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QURAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ  
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
النَّارِ فَاَلْقَدَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

(سورہ آل عمران ۱۰۳)

ترجمہ: اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس  
میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم  
پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ  
دیئے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے  
بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے  
بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے  
شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔

## QUESTIONS AND ANSWERS

جناب چیئر مین : - بسم اللہ الرحمن الرحیم - سوالات -  
جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب -

## ARMY AMMUNITION DEPOTS

153. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Nawabzada Jahangir Shah) ; Will the Minister for Defence be pleased to state :

- (a) the number of Army Ammunition Depots situated in close proximity to centres of civilian population in the country ; and  
(b) the steps being taken to remove them to safer distances ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : (a) Three.

(b) The Government has already issued orders regarding re-location of Ammunition Depots away from population centres. Accordingly, a Board of Officers has been detailed to survey these depots and make recommendations for their shifting.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال ؛ کوئی نہیں ۔ اگلا سوال نمبر ۱۵۴ -

## ARMY PETROL DEPOT RAWALPINDI

154. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Nawabzada Jehangir Shah) ; Will the Minister for Defence be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that there exists a Petrol Depot for the Army next to the Bridge Marris on main Murree Road, Rawalpindi.  
(b) whether it is also a fact that the said Depot is very close to Thermal Power Generation Plant of WAPDA in Rawalpindi and is also adjacent to the main bus and wagon stand; and if so the steps the Government has taken to ensure that it will not become a hazard in the future for the population in the area ; and  
(c) whether the Government intends to shift such oil depots to places of greater safety ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad): (a) No Petrol Depot is located on main Murree Road near Marris Bridge.

(b) & (c) The small POL Group of Ration Supply Depot (Army Service Corps, Rawalpindi), which is as safe as any roadside Petrol Pump, is in the process of shifting to an alternative location very soon.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال ؛ کوئی نہیں ۔ اگلا سوال نمبر ۱۵۵

ADVERTISEMENT RATES

155. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (put by Muhammad Ishaq Baluch) : Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two different standards are applied in fixing advertisement rates for public and private sectors; if so, the reasons therefor : and

(b) whether the Government intends to rationalize the charges both for public and private sector as regard the rates of advertisements and make them uniform ?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro : (a) Yes. While Government fixes its own rates of advertisements in consultation with the All Pakistan Newspapers Society (APNS), it has no role in advertisement rates of the private sector.

(b) Government advertisement rates are quite rational. They are, however, revised from time to time taking into consideration all the relevant factors. Maintaining uniformity between the two rates is neither possible nor necessary, and no such proposal is under consideration of the Government at present.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال ؛ کوئی نہیں ۔ اگلا سوال نمبر ۱۵۶

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN NORTH WAZIRISTAN AGENCY

156. \*Malik Sadullah Khan : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state :

(a) the total number of villages electrified in North Waziristan Agency so far ; indicating also the number of villages which have not been electrified ; and

(b) the time by which the remaining villages will be electrified ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : (a) On the basis of information provided by Area Electricity Board, NWFP, Peshawar 145 villages/localities have been electrified in North Waziristan Agency so far. The Commission D. I. Khan Division reported that there are 226 recognised villages in the Agency. This number does not include new settlements which have sprung up recently. Thus on the basis of above information the number of un-electrified villages is 81.

(b) The remaining un-electrified villages will be electrified according to Agency-wise quota fixed by the Government of NWFP, on the recommendations of the local administration in consultation with public representatives.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال - جناب حاجی صاحب -

ملک سعد اللہ خان: بجلی کے لئے گورنر بھی لکھ دیتا ہے وہاں سے چیف بھی لکھ دیتا ہے، S.E. بھی لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب تک یہ XEN اور S.D.O. راضی نہ ہوں کسی کی بھی پراہ نہیں کرتا۔ اور نہ پھر وزیر نے دوبارہ پوچھا ہے کہ جو میں نے لکھا تھا اس کا کیا ہوا۔ اور جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ لگتا بھی ہے یا نہیں؟ پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں کہ جو میں نے لکھا تھا اس کا کیا ہوا؟

جناب وسیم سجاد : جناب ان سے ضرور پوچھیں گے حاجی صاحب نے نساند ہی کی ہے ان سے پوچھا جائے گا۔

جناب چیئر مین : ان سے پوچھا جائے گا۔ جناب شاد محمد خان صاحب -

جناب شاد محمد خان : جناب والا! کیا آپ یہ بتلائیں گے کہ جب ہم recommendation لکھتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ criteria میں نہیں آتا۔ حالانکہ جگہ موزوں ہوتی ہے اور یہ criteria کی بات

اس کے اندر زیادتی ہے۔ کیا اس پر آپ نظر ثانی کریں گے؟

جناب چیئر مین : میرا خیال ہے کہ criteria سے متعلق کل پرسوں بھی

سوال آیا تھا اور وزیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر ایک سوئے کے

جو الگ criteria ہیں وہ بتائے تھے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ سفارش صوبائی حکومت کو جاتی ہے۔ وہ اپنی criteria پہ اپنا ایک گاؤں کا انتخاب کرتا ہے اور ان کا جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہونا ہے اس میں یہ fit کرتے ہیں۔ یہ سب جوابات پچھلے سوالوں میں آچکے ہیں۔۔۔

Mr. Shad Muhammad Khan : No, Sir, regarding this question when a village is allocated to the Senators.....

اور جب سینٹرز بیٹھتے ہیں اور اس میں جو وہ criteria لاگو کرتے ہیں حالانکہ اس شہر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے کہ اگر ضرورت ہے تو اس کو وہ criteria کو اڑا دیں۔

جناب دیسیم سجاد جناب والا! کوئی نہ کوئی criteria تو بنا پڑے گا یہ جو علاقے ٹرائیبل ایریاز میں ہیں ان کے لیے جو criteria فکس کیا جاتا ہے آخر کوئی نہ کوئی معیار بنانا پڑے گا۔ اگر جناب شاد محمد خان صاحب یا کوئی سینیٹر criteria change کرنے کے بارے میں کوئی proposal دیں تو اس کو ہم consider کریں گے لیکن بہر حال ہم کوئی نہ کوئی criteria رکھیں گے۔

جناب چیئر مین : اگلا سوال نمبر ۱۵۷۔

RURAL HEALTH CENTRES IN NORTH WAZIRISTAN AGENCY

157. \*Malik Sadullah Khan : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state :

(a) the total number of Rural Health Centres, Basic Health Units and other medical facilities constructed in the North Waziristan Agency from 1981 to date indicating also their location ;

[Malik Sadullah Khan]

(b) the total number of such places in the North Waziristan Agency where B.H.U and R.H.C. or Hospitals etc. are needed but the same have not so far been constructed; and

(c) the reasons for non-construction of such facilities ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad): (a) 2 Hospitals, 6 dispensaries and 8 Basic Health Units have been constructed in North Waziristan Agency from 1981 to date. Their location is as follows:—

*Hospitals :*

1. Civil Hospital Bichi.
2. Civil Hospitals Razmak (Up-graded from dispensary).

*Dispensaries :*

1. Civil Dispensary Dai Khula (Tehsil Mir Ali).
2. Civil Dispensary Mamet Kot (Tehsil Garium).
3. Civil Dispensary Anghar Killd (Tehsil Mir Ali).
4. Civil Dispensary Baro Khel (Tehsil Mir Ali).
5. Civil Dispensary Shermat Kot (Tehsil Mir Ali).
6. Civil Dispensary Datta Khel (Tehsil Spinwam).

*Basic Health Units :*

1. Basic Health Unit Garium.
2. Basic Health Unit Hassan Khel.
3. Basic Health Unit Tity Mada Khel.
4. Basic Health Unit Malik Adat Khan.
5. Basic Health Unit Mameet Kot (Tehsil Shewa).
6. Basic Health Unit Natasi Area (Tehsil Mir Ali).
7. Basic Health Unit Namal.
8. Basic Health Unit Lake Assad Khel.

(b) Areas needing medical facilities are identified, through a process of consultation between the public representatives and the Administration and medical facilities are provided there under the Annual Development Programme that duly takes into account urgency of the need and availability of resources.

(c) As stated in 'b' above.

Mr. Chairman : No supplementaries ? Next question.

AFGHAN REFUGEES

158. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Syed Abbas Shah) : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state whether it is a fact that the Afghan Refugee Commissioners have withheld financial aid to the Afghan combatant families who have taken refuge in Quetta and Peshawar. If so the reasons therefor ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : (i) There is neither any sanction nor provision in the budget for payment of financial aid to the Afghan combatant families who have taken refuge in Quetta and Peshawar.

(ii) Government of Pakistan, however, stands committed to the payment of maintenance allowance to A.R. at the rate of Rs. 50 per person per month to a maximum of Rs. 350 per month per family. It has not been withheld.

(iii) In addition Government has sanctioned special maintenance allowance to be paid to 380 prominent Afghan families who have taken refuge in NWFP. This is being paid regularly.

(iv) During the audit and inspection of accounts of the Commissionerate A.R. NWFP, it transpired that Commissionerate was paying special allowance to 3805 A.R. defence personnel at a varying scale between Rs. 1000 to Rs. 100 P.M. The payment of special allowance to these personnel was neither sanctioned by Government nor any provision made in the budget. However, on the orders of the Provincial Government only 602 Afghan Refugee defence personnel were being paid special allowance amounting to Rs. 1,71,500 P.M. Thus the Commissionerate was paying this special allowance to 3203 refugees without any orders of the competent authority. Hence Commissionerate was instructed not to incur any unauthorised expenditure till sanction is obtained from the Government. As soon as the details are received from the Provincial Government of NWFP, appropriate action will be taken by SAFRON in consultation with Finance Division.

جناب چیئر مین: ضمنی سوال؟ نہیں ہے۔ اگلا سوال، نواب زادہ جہانگیر شاہ۔

EXTENSION IN SERVICE

159. \*Nawabzada Jahangir Shah : Will the Minister for Defence be pleased to state :

(a) the total number and names of officers in grade 17 and above of the Defence Production Division who retired or proceeded on LPR since 1st January, 1987;

[Nawabzada Jahangir Shah]

(b) the names of those officers who have been given extension in the service indicating also the period of such extension since 1st June 1987 with reasons thereof; and

(c) the names of officers in the said Division under consideration for re-employment ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : The information relating to the Question is as under :-

(a) Total number of Officers—2:

(1) Brig. Masood Ahmed BPS—20 retired on 4-3-1988.

(2) Mr. A. H. Bessey BPS—19 retired on 16-11-1988.

(b) Nil.

(c) Nil.

جناب چیئرمین : ضمنی سوال ؟

نوابزادہ جہانگیر شاہ : یہ 'Nil' کا جواب کب آئے گا ؟

جناب چیئرمین : 'Nil' کا مطلب ہے ۔ ایسا ہے ہی نہیں ۔

جناب وسیم سجاد : سوال یہ ہے کہ ایسے افسر کا نام بتایا جائے جس

کو یکم جون ۱۹۸۸ء کے بعد ملازمت میں توسیع دی گئی ہے ۔ اس کا جواب ہے کہ کوئی ایسا افسر نہیں ہے ۔

نوابزادہ جہانگیر شاہ : جو فریڈلائزر کارپوریشن میں دے رہے ہیں

وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ؟

جناب وسیم سجاد : یہ غالباً آپ نے ڈیفنس پروڈکشن ڈویژن کے

متعلق پوچھا ہے ۔

جناب چیئرمین : ڈیفنس کا الگ ہے ۔ اریکلر کا الگ ہے ۔

نوابزادہ جہانگیر شاہ : وہ افسر ڈیفنس کی سروس میں ہے۔ میں تو ڈیفنس پر سوال کی بات کر رہا ہوں۔

جناب چیئرمین : اگر وہ کسی اور ڈویژن میں ہے تو میرے خیال میں ڈیفنس سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔

نوابزادہ جہانگیر شاہ : لیکن جو لوگ وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ دوبارہ یہاں لگائے جاتے ہیں۔

جناب چیئرمین : نوابزادہ صاحب! جب وہاں سے ریٹائر ہوتا ہے گویا اس کا وہاں سے نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر نئی شادی کرنی ہے تو نئی شادی کی بات کریں۔ اس پر توسیع نہیں دی گئی۔ اگلا سوال جناب عالم علی لالی کا صاحب

POSTING OF JUDICIAL OFFICERS IN FEDERAL SECTT.

160. \*Mian Alam Ali Laleka : Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers belonging to the various Provinces are posted in the Federal Secretariat, Islamabad:

(b) whether it is also a fact that only officers belonging to Punjab Judicial Service are posted against the available judicial posts at Islamabad, if so ;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give representation to all the four provinces in the Federal Secretariat ; and

(d) the names, place of domicile and the date of present posting of the incumbants from provincial judicial departments ?

Mr. Wasim Sajjad : (a) Yes—officers domiciled in various provinces who are members of All Pakistan Services are posted to the Federal Secretariat. In the Ministry of Justice and Parliamentary Affairs of the Federal Government, Officers from provincial judicial services are posted as there is no All Pakistan Judicial Service.

(b) This is not true of judicial posts in the Federal Secretariat at Islamabad.

(c) No such proposal is under consideration as representation of the four provinces in the federal secretariat is ensured through officers of All Pakistan Services domiciled in various provinces.

(d) List is attached at Annexure I.

**PARTICULARS OF THE JUDICIAL OFFICERS FROM PROVINCES POSTED AT  
FEDERAL SECRETARIAT/UNDER MINISTRY OF JUSTICE AND  
PARLIAMENTARY AFFAIRS/MINISTRY OF INTERIOR.**

S. No.	Name and Designation	Place of domicile	Date of present from Provincial Department	Posting Judicial
1	2	3	4	5
<b>Justice Division</b>				
1.	Mr. Justice, Nasir Aslam Zahid, Secretary.	Sindh	31-7-1988 (A.N.)	
2.	Mr. S. Amjad Ali, Draftsman	Punjab	8-6-1987	
3.	Sayed Amjad Hussain Bokhari, Joint Secretary.	Punjab	10-6-1977	
4.	Mr. Muhammad Bashir Khan Jehangiri, Joint Secretary.	N.W.F.P.	12-9-1984	
5.	Mr. Ali Akbar M. Dodani, Joint Secretary.	Sindh	10-9-1985	
6.	Mr. Muzaffar Hussain Malik, Joint Secretary.	Punjab (By transfer from Northern Area)	28-1-1988	
7.	Ch. Irshad Ahmad, Additional Draftsman (Acting Charge)	Punjab	1-12-1983	
8.	Mr. Sajid Hussain, Deputy Solicitor.	Sindh	24-3-1985	
<b>Parliamentary Affairs Division</b>				
9.	Raja Muhammad Khurshid, Joint Secretary.	Punjab	9-9-1986	

1	2	3	4	5
10.	Qazi Masood-ur-Rahman, Deputy Secretary.	Punjab	25-10-1987	
	Interior Division			
11.	Mr. Khiyar Khan, Joint Secretary	N.W.F.P.	29-5-1984	
	Islamabad Capital Territory			
12.	Syed Zafar Babar Shah, District and Sessions Judge (BPS-19).	Punjab		
13.	Syed Ijaz Hussain Gillani, Additional District and Sessions Judge	Punjab	30-6-1987	
14.	Mr. Karamt Hussain Niazi, Senior Civil Judge.	Punjab	21-7-1985	
15.	Mr. Jahandar Khan, Civil Judge	Punjab	13-7-1986	

(Originally fixed for answer on 28th July, 1988.)

جناب چیئرمین : ضمنی سوال ؟ جناب لالیکا صاحب -

میاں عالم علی لالیکا : کیا محترم وزیر صاحب فرمائیے گے کہ آل پاکستان سروسز میں مختلف صوبوں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہے ؟

جناب چیئرمین : میں نہیں سمجھا - کیا سوال تھا آپ کا ؟

میاں عالم علی لالیکا : میرا سوال تھا کہ جوڈیشیل سروسز میں صوبوں کو کیا نمائندگی دی جاتی ہے ۔ جوڈیشیل سروسز میں مختلف صوبوں کے لوگوں کو کس تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے ۔

جناب چیئرمین : جناب وسیم سجاد صاحب !

جناب وسیم سجاد : جناب والا! یہاں پر میں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ آل پاکستان جوڈیشیل سروسز کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جو آفیسرز لینے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں پراڈیشیل سروسز سے۔ تو پراڈیشیل جوڈیشیل سروسز کے کچھ آدمیوں کے نام ہم نے دیئے ہوئے ہیں۔ کچھ پنجاب

[Mr. Wasim Sajjad]

سے ہیں۔ کچھ صوبہ سرحد سے ہیں۔ کوئی سندھ سے ہیں۔ کوئی ناڈرن ایریا سے ہیں اور ایرانشیل جو ڈیٹیل سروس کے آدمیوں کو یہاں لیا جاتا ہے۔

میاں عالم علی لالیکا: جناب والا! اس سے متعلق میرا صرف یہ سوال ہے کہ آل پاکستان سروسز میں جو لوگ صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں ان میں صوبوں کا تناسب کیا ہے؟ صوبوں کو کس قدر نمائندگی دی جاتی ہے؟ کیا پنجاب اس میں سے سارا حصہ لے جاتا ہے؟ یا صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لوگوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے؟

جناب وسیم سجاد: جناب والا! آل پاکستان سروسز میں نہیں لیا جاتا۔ یہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں کم از کم وزارت انصاف میں پرائیویٹ جو ڈیٹیل سروس سے لیا جاتا ہے۔ وہ آل پاکستان سروسز میں نہیں آتے، وہ یہاں ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں اور جب ڈیپوٹیشن ختم ہو جاتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔

جناب چیئرمین: ڈیپوٹیشن کے لیے کوئی کوٹہ کا تعین نہیں ہے۔

جناب وسیم سجاد: جناب ہم ایک تناسب رکھتے ہیں۔ جس میں کوشش یہ ہوتی ہے۔ کہ سارے صوبوں سے لیے جائیں لیکن کوئی fixed quota نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: قانوناً کوئی فلکس نہیں ہے۔

جناب وسیم سجاد: جی ہاں قانوناً کوئی فلکس نہیں ہے۔

INSPECTION OF POLICE STATIONS BY POLICE OFFICERS

72. \*Prof. Khurshid Ahmed (Put by Syed Abbas Shah) : Will the Minister for Interior be pleased to state :

(a) how frequently the police stations in the four provinces of Pakistan are regularly inspected by SDPO and SPs and the District Police Stations by DIG and I.G. of the provinces, indicating also the number of special report cases were followed by the DIG and I.G. and also the number of cases not followed by them in the last two years ; and

(b) whether the police authorities hold crimes control meetings on regular basis and whether records of such crimes control meetings are available for the last ten years ?

**Malik Naseem Ahmed Aheer** : Every Police Station and Post in a Distt. is thoroughly inspected by a gazetted officer twice in each year. In pursuance of Police Rule 20.5, at least one such inspection is carried out by the Supdt. of Police. At such inspections of Police Stations, a return for each quarter's working since the last inspection is made out and submitted with an inspection report to the D.I.G. by the S.P. of the Distt. Every Police Station is not inspected by DIG and I.G. (P). However, these Officers select at random a few Police Stations while conducting inspection of the Distt.

- |  |       |
|--|-------|
| (a) (i) Total number of Inspections conducted by IGP, D.I.Gs., S.Ps., SDPOs. in Punjab, NWFP and Baluchistan.                  | 7555  |
| (ii) Total number of special report cases and the number of cases followed by the IGP, DIG and SPs. In Punjab and Baluchistan. | 71888 |

Reply from Sindh awaited ; Reminder issued.

(b) Punjab, N.W.F.P. and Baluchistan Yes.

Reply from Sindh awaited ; Reminder issued.

جناب چیئر مین : ضمنی سوال نہیں ہے۔ اگلا سوال۔

MAJOR CRIMES COMMITTED DURING

73. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Syed Abbas Shah) : Will the Minister for Interior be pleased to state the total number of major crimes such as abduction, murder, rape, robbery, dacoities etc., committed in the country during the period 1980 to 1987 with year-wise and province-wise break-up ?

Malik Naseem Ahmed Aheer : As many as 42182 Murder offences, 11017 Rape, 38465 Kidnapping/Abduction, 1633 Dacoity and 6809 Robbery offences had occurred during the period 1980-1987 in the country. Province-wise and year-wise break-up are attached below.

NUMBER OF DACOITY REPORTED DURING 1980 TO 1987

DACOITY

Provinces	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Punjab	20	21	23	29	51	59	68	65
Sindh	51	72	96	101	187	171	246	201
N.W.F.P.	12	19	9	9	14	15	19	26
Baluchistan	5	6	7	5	6	13	11	5
Islamabad	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	88	118	135	144	259	248	344	297

NUMBER OF MURDERS REPORTED DURING 1980 TO 1987

MURDERS

Provinces	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Punjab	2,028	2,149	2,133	2,050	2,189	2,353	2,686	2,846
Sindh	1,080	1,214	1,220	1,259	1,292	1,363	1,569	1,491
N.W.F.P.	1,325	1,328	1,320	1,338	1,495	1,491	1,741	1,897
Baluchistan	100	120	125	110	131	121	130	138
Islamabad	18	23	12	11	15	25	23	23
Total :	4,551	4,834	4,810	4,768	5,222	5,453	6,149	6,395

NUMBER OF ROBBERY REPORTED DURING 1980 TO 1987

ROBBERY

Provinces	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Punjab	198	196	300	310	331	339	456	526
Sindh	286	367	338	311	441	481	629	622
N.W.F.P.	21	48	41	63	45	43	47	59
Baluchistan	39	34	32	41	25	44	38	31
Islamabad	7	7	1	-	3	3	5	10
Total :	542	652	712	725	845	910	1,175	1,248

NUMBER OF KIDNAPPING/ABDUCTION REPORTED DURING 1980 TO 1987  
KIDNAPPING/ABDUCTION

Provinces	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Punjab	2,566	3,490	3,458	3,048	3,524	3,602	3,900	3,853
Sindh	682	690	797	748	913	867	994	880
N.W.F.P.	559	531	497	504	517	476	497	478
Baluchistan	36	38	33	39	37	45	35	16
Islamabad	-	30	2	4	-	4	3	2
Total :	3,843	4,779	4,787	4,343	4,991	5,064	5,429	5,229

NUMBER OF RAPING REPORTED DURING 1980 TO 1987

RAPE

Provinces	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Punjab	570	867	1,130	1,287	1,283	1,216	1,326	1,298
Sindh	137	105	109	93	108	130	127	146
N.W.F.P.	68	98	87	111	135	128	98	109
Baluchistan	13	10	8	11	5	18	43	42
Islamabad	11	17	13	9	16	10	11	14
Total :	799	1,097	1,347	1,511	1,547	1,502	1,605	1,609

جناب چیئرمین : یہ نیکیٹس اینڈ فنگرز دلچسپ ہیں ان کا مطالعہ کر کے  
میرے خیال میں آپ نئے سوالات پوچھ سکیں گے۔ اگلا سوال۔

ADVERTISEMENT OF INVEST COMPANIES AT T.V.

74. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Syed Abbas Shah) : Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state whether it is a fact that the advertisement of a company known as 'Pioneer Alliance Company' one amongst so many investment companies, which has gone burst in April, 1988 were telecast from Pakistan Television in the months of January, February and March despite government denunciation of the investment companies and that this programme was telecast with the participation of popular compere Mr. Tariq Aziz ; and, if so the reasons therefor ?

Mr. Illahi Bukhsh Soomro : This commercial was allowed on television as it contained purely institutional publicity. The commercial did not contain any invitation to the general public for subscription towards its capital or promised high returns.

[Mr. Illahi Bukhsh Soomro]

As the commercial did not contain any material which can be treated as illegal, it was allowed for telecast.

جناب چیئرمین : ضمنی سوال ؛ نہیں ہے ۔ اگلا سوال !

DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

75. \* Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (put by Mr. Muhammad Ishaq Baluch) : Will the Minister of Science and Technology be pleased to state :

(a) the total number of projects schemes undertaken by the Government to develop science and technology in the country, since 1985 ;

(b) the steps taken for the transfer of technology ; and

(c) whether the Government will be in a position to place before the House the report of last two years performance of the Ministry of Science and Technology and its attached departments ?

Chaudhary Nisar Ali Khan : (a) Seventy-three projects/schemes were undertaken for development of S&T in the country since 1985.

(b) Ministry of Science and Technology has established National Centre for Transfer of Technology (NCTT). The Centre is preparing recommendations for enacting a "National Code of Conduct for Transfer of Technology/Act on Promotion and protection of Technology Transfer in Pakistan" with the object of streamlining and promotion of technology transfer process. In addition, NCTT is taking steps to promote linkages between local and foreign technology producers and for the identification of commercially viable technologies appropriate to the national needs.

(c) The report of last two years performance of the Ministry of Science and Technology and autonomous organizations under its administrative control is being prepared and will be laid on the table of the House as soon as possible.

76. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (put by Mr. Muhammad Ishaq Baluch) : Will the Minister for Interior be pleased to state :

(a) the total number of foreigners with names of their countries of origin in each case, who were given Pakistani nationality during the last three years ; and

(b) the conditions and rules under which nationality was granted to the said persons ?

Malik Nasim Ahmed Aheer :

(a) 1985	...	...	1653
1986	...	...	1567
1987	...	...	1302

(b) Mentioned against each separately in Annexure-I.

(Annexure has been placed in the Senate Library).

جناب چیئر مین : ضمنی سوال ؟ نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب محسن صدیقی صاحب !

BAN ON OBJECTIONABLE LITERATURE

77. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (put by Muhammad Ishaq Baluch) : Will the Minister for Interior be pleased to state the detail of objectionable literature and other publications banned by the Federal Government during the last three years ?

Malik Nasim Ahmed Aheer : Federal Government have not banned any literature/publication during the last three years.

جہاں تک جناب فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے۔ ہم نے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن صوبائی حکومتوں نے جو لگائی ہے۔ ان کی تفصیلات اگر کوئی چاہے تو میں مہیا کر سکتا ہوں۔

جناب چیئر مین : اگر کوئی پوچھ لے تو ضرور بتائیے۔ میرے خیال میں صوبائی میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ ملک حاجی سعد اللہ خان صاحب ۷۸۔

REFUGEES CAMPS IN NORTH WAZIRISTAN

78. \*Mr. Malik Sadullah Khan : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state :

(a) the total number of refugee camps located in North Waziristan Agency indicating also the total number of employees from grade 1 to 17 working in each camp ; and

[Malik Sadullah Khan]

(b) whether the government has prepared any programme to provide alternative jobs to such employees after the repatriation of the Afghan Refugees ?

**Mr. Mahmood A. Haroon** (read by Mr. Wasim Sajjad) : (a) (i) The total number of Afghan Refugees camps located in North Waziristan Agency are 24.

(ii) Total sanctioned strength of employees in each camp is 17.

(iii) Total sanctioned strength of employees from Grade 1-16 in all these 24 camps 408.

(iv) 2 Area Administrators in grade 17 are also working in North Waziristan Agency, which makes a total of 410 employees as per Annexure-A.

(b) The Commissionerates of Afghan Refugees in the Provinces are Provincially Administered Organization. The Provincial Governments are cognizent of the issue and they are being asked to chalk out a plan for absorption and disposal of the employees in the event of repatriation of Afghan Refugees.

Annexure 'A'

DETAILS SHOWING SANCTIONED STRENGTH OF EMPLOYEES  
IN ONE AFGHAN REFUGEES CAMP

a. Total number of employees in one TRV are as follows :-

R.V.A. (BPS-16) ...	...	...	...	1
Accountant (BPS-11) ...	...	...	...	3
Sr. Clerk (BPS-7) ...	...	...	...	1
Store Keeper (BPS-6) ...	...	...	...	2
Jr. Clerk/typist (B-5) ...	...	...	...	1
Jr. Clerk (BPS-5) ...	...	...	...	2
Head Constable (BPS-3) ...	...	...	...	1
Foot Constable (BPS-2) ...	...	...	...	4
N/Qasid (BPS-1) ...	...	...	...	1
Chowkidar (BPS-1) ...	...	...	...	1
			Total ...	17

DETAILS OF SANCTIONED STRENGTH OF EMPLOYEES FROM  
GRADE 1 TO 17 IN 24 AFGHAN REFUGEES CAMPS

b. Total number of employees from Grade 1 to 17 in 24 Camps :-

(Area Administrators)			
Grade-17	...	...	2
Grade-16	...	...	24
Grade-11	...	...	72
Grade-7	...	...	24
Grade-6	...	...	48
Grade-5	...	...	72
Grade-3	...	...	24
Grade-2	...	...	96
Grade-1	...	...	48
Total			410

ملک سعد اللہ خان : اس کے لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مہاجر چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہے ؟

جناب چیئر مین : پہلے تو یہ دعا کریں کہ مہاجر چلے جائیں پھر یہ سوچیں گے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے ۔

ملک سعد اللہ خان : اگر وہ نہیں گئے تو پھر ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم بھی خاموش رہیں گے ۔

قاضی عبداللطیف : اب تک کتنے ملازمین فارغ کیے جا چکے ہیں ۔ کیونکہ مہاجرین کی کافی تعداد جا چکی ہے ؟

جناب وسیم سجاد : جہاں تک مجھے اطلاع ہے ابھی تک کسی کو فارغ نہیں کیا گیا ۔

ملک سعد اللہ خان : کیا ہے ۔ ادھر ہمارے میڈن شاہ میں ہوا ہے ۔

جناب وسیم سجاد : جی پھر میں اس کی تفصیل لے لیتا ہوں ۔

جناب چیئر مین : اگر آپ وزیر صاحب کو تفصیل فراہم کریں تو پھر یہ پوچھ  
لیں گے کہ کس کس کو فارغ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔

SINKING OF TUBE WELLS IN NORTH WAZIRISTAN

79. \*Malik Sadullah Khan : Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state :

(a) the total number of tube-wells installed in the North Waziristan Agency from 1981 till to date for drinking and irrigation purposes indicating also the number of tube-wells which are successfully functioning and those which have failed ; and

(b) the reasons for the failure of the tube-wells in question and the action, if any, taken against the persons responsible for the neglect leading to defects in the tube-wells ?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : (a) The position of tubewells/testwells installed in N.W.F.P. since 1981, for drinking and irrigation purpose, by Public Health Engineering Department of Government of N.W.F.P. and FATA DC are tabulated as under :—

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

(Drinking Water Supply Tubewells)

(i) Tubewells completed	...	...	...	34
(ii) Successful	...	...	...	31
(iii) Failed	...	...	...	3
(iv) In operation	...	...	...	19
(v) Awaiting electricity connections	...	...	...	12

FATA DEVELOPMENT CORPORATION

(Irrigation Tubewells/Testwells)

(i) Total No. of wells attempted	...	...	...	50
(ii) Successful	...	...	...	37

(iii) Failed	...	...	...	...	13
(Technical reasons 6 + Abandoned due to low discharge-7)					
(iv) In operation	...	...	...	...	12
(a) Drinking Water					2
(b) Irrigation					10
(v) Nos. being converted in to irrigation tube-wells and energised in current financial year.					25

(b) In testwell and tube-wells schemes, the possibility of failure cannot be ruled out. There is always a certain percentage of failure in such schemes. Since it is a general phenomenon, therefore, question of fixing responsibility on any individual does not arise. The failure is normally due to two major factors namely, when no water bearing formation is struck and when there is a mechanical break down.

**Mr. Chairman :** The answer to question No. 79 can be taken as read but there is I think one defect in the answer. The answer pertains to Frontier as a whole. The question related only to North Waziristan Agency and specific information with regard to North Waziristan Agency has not been given. I hope this deficiency would be corrected. Do you follow what I said ?

**Mr. Wasim Sajjad :** The question is with respect to North Waziristan Agency.

**Mr. Chairman :** Right, and the reply starts with tubewells installed in the North West Frontier Province. So, it is not particular to North Waziristan Agency. Next question No. 80.

C.S.S. OFFICERS FROM FATA

80. **\*Malik Sadullah Khan :** Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the total number of persons inducted in the CSS from FATA since 1981 indicating also the names, permanent address and group of service of such employees belonging to North Waziristan Agency ?

**Mr. Wasim Sajjad :** (1) No separate quota for FATA is maintained. 4 per cent quota is reserved for Northern Areas and Federally Administered Tribal Areas (NAFATA) against which 45 persons have been inducted through CSS examination since 1981.

(2) Total number of persons belonging to FATA is 41.

(3) The names, permanent addresses and group of service of persons belonging to North Waziristan Agency is given in the attached statement.

NAMES, ADDRESSES AND SERVICE GROUPS OF OFFICERS OF NORTH WAZIRISTAN AGENCY INDUCTED THROUGH  
CSS SINCE 1981

S. No.	Name of persons	Permanent address	Group/Service in which inducted	Remarks
		C.S.S.—1981		
1.	Mr. Ghulam Qadir Khan, Roll No. 548	Daur Darpa Khel, Sarai Miran Shah, North Waziristan Agency.	Commerce and Trade.	
		C.C.S.—1982		
2.	Mr. Latiq-ur-Rehman, Roll No. 854	Village Hussau Khel, Teh. and P.O. Mir Ali, North Waziristan Agency.	District Management.	
		C.S.S.—1983		
3.	Mr. Sher Ayoub Khan Roll No. 4817	Village Hussau Khel, Teh. and P.O. Mir Ali, North Waziristan Agency	Information.	
		C.S.S.—1984		
4.	Mr. Ghulam Qadir Khan, Roll No. 2074	Daur Darpa Khel, Sarai Miran Shah, North Waziristan Agency.	District Management,	Repeater C.S.S., 1981
		C.S.S.—1986		
5.	Mr. Yunas Rehman Roll No. 1504	Village Hussau Khel, Teh. and P.O. Mir Ali, North Waziristan Agency.	Railways (C & T).	

Mr. Chairman : Supplementary question ?

Mr. Akhunzada Behrawar Saeed : Is there any quota fixed for FATA?

Mr. Chairman : There is no quota for FATA as such.

Mr. Wasim Sajjad : There is a quota for FATA and Northern Areas jointly.

Syed Abbas Shah : Is it according to 4% ?

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I assume that FATA plus Northern Areas have joint quota and there is no separate quota for FATA.

Mr. Chairman : Next question No. 81.

CHANGE OF ROUTE OF BOLLAN MAIL

81. \*Mr. Abdur Rehman Jamali : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to route Bollan Mail, Khushhal Khan Khattak or Mohenjodaro Express through the Railway stations of Usta Mohammad, Garhi Khairo, Shedad Kot, and Qumber Ali Khan ; and

(b) whether the Government will also provide the requisite facilities of Sheds and drinking water etc., for the passengers at these Railway stations?

Mr. Mahmood A. Haroon (read by Mr. Wasim Sajjad) : (a) No.

(b) No.

Mr. Ahmedmian Soomro : Sir, may I ask why is the Government not arranging drinking water for the passengers at these railway stations ?

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I think the correct position is that there is drinking facilities made available. Sir, the information given to me states that passengers amenities such as platform, shelter, shed, water supply and water huts are already provided at Garhi Khairo, Shedad Kot and Qumber Ali Khan. There is no proposal to provide shelter at Usta Mohammad where sufficient number of large trees are growing on the platform. Similarly where there is no water supply handpumps and water huts are provided such as a Garhi Khairo for supply of cool water to passengers.

Mr. Ahmedmian Soomro : Sir, first answer is merely 'no' and second is something quite different from the first one. Which should be taken as correct ?

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I agree that there is a confusion.

Mr. Chairman : I think you are right, the reply is not correct.

جناب عبدالرحمن جمالی : میں سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر صاحب کو صحیح اطلاع نہیں ملی استنا محمد کے ریلوے اسٹیشن پر پینے کے بٹے پانی بھی نہیں ہے - and it is one of the hottest area - اور آپ پینے کے لیے پانی نہیں دے سکتے -

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I will get this matter investigated.

جناب چیئر مین : انہوں نے جو ارشاد فرمایا وہ استنا محمد کے منعلق نہیں تھا وہ گڑھی اور شہداد کوٹ اور فٹنر علی خان سٹیشنوں کے منعلق تھا -

Mr. Abdur Rehman Jamil : Sir, the main question was about Osta Mohammad.

جناب وسیم سجاد : جناب استنا محمد کے بارے میں اگر نہیں ہے -

Then I will convey this to the Railway authorities and I am sure that such arrangements shall be made.

جناب چیئر مین : اگلا سوال ، جناب محمد طارق چوہدری صاحب -

TOTAL EMPLOYEES OF PIA WORKING ON 31-12-1987

82. \*Mr. Mohammad Tariq Chaudhary : Will the Minister for Defence be pleased to state the total number of employees working in the Pakistan Airlines as on 31st December, 1987 with their grade-wise and province-wise breakup ?

Mr. Mahmood A. Haroon (Answered by Mr. Wasim Sajjad) : The required information is at Annexure-A.

## DOMICILE/PAY GROUP-WISE DETAIL OF PIAC EMPLOYEES AS ON 31ST DECEMBER 1987

Province	SPL	Pay Groups										Total	Over All Percentage
		X	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I		
Punjab	277	27	89	288	236	437	934	2070	2054	588	51	7051	38.09%
Sindh (Urban)	148	27	123	277	264	461	1020	1281	1267	500	85	5453	30.08%
Sindh (Rural)	31	2	9	22	37	48	138	279	371	182	44	1163	06.42%
N.W.F.P.	40	3	8	28	36	67	145	319	758	298	27	1729	09.64%
Baluchistan	13	1	3	4	13	22	23	127	141	105	15	467	02.58%
N/T Area	4	0	0	2	1	5	9	26	78	29	5	159	00.88%
Azad Kashmir	5	1	2	1	4	14	21	46	130	57	7	288	01.60%
Merit	59	6	26	70	65	118	254	461	533	195	28	1815	10.00%
<b>Total</b>	<b>577</b>	<b>67</b>	<b>260</b>	<b>692</b>	<b>656</b>	<b>1172</b>	<b>2544</b>	<b>4609</b>	<b>5332</b>	<b>1954</b>	<b>262</b>	<b>18125</b>	<b>100.00%</b>

جناب محمد طارق چوہدری : اگر calculation کی جائے تو پی آئی اے اے میں بلوچستان کا کوٹہ دو اعشاریہ پانچ بنتا ہے جبکہ یہ دراصل چار اعشاریہ پانچ ہونا چاہیے تو یہ باقی کا کوٹہ جو ہے وہ کب تک پورا کیا جائے گا۔

Mr. Wasim Sajjad : Sir, it is correct that quota of Baluchistan is short, in fact all the Provinces in PIA is under represented except Sindh urban where it is over represented by about 30% and the reasons for this are that the quota was made applicable to PIA since 1973 while the Organization was set up sometimes in 1954 and it will take a long time before we are able to achieve these targets but efforts are being made and in respect of future recruitment policy the aim is that we are able to schieve the quota in respect of the various Provinces but it will take sometime Sir.

جناب چیئر مین : اور کوئی ضمنی سوال؟ نہیں ہے ، اگلا سوال نمبر ۸۳  
جناب محمد طارق چوہدری صاحب

#### POLICE OFFICERS BELONGING TO BALUCHISTAN

83. \*Mohammad Tariq Chaudhary : Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the total number of Police Officers serving in Baluchistan from the APUGs cadre alongwith their names, place of permanent residence indicating also the names of Police Officers belonging to Baluchistan serving outside the Baluchistan province ?

Mr. Wasim Sajjad : There are 24 PSP. Officers serving in Baluchistan. Their names, place of permanent residence are at Annex-I.

There are 9 PSP officers belonging to Baluchistan who are serving outside the Baluchistan Province. Their names are at Annex-II.

Annexure I

STATEMENT SHOWING NAMES AND PROVINCE OF PERMANENT  
RESIDENCE OF PSP. OFFICERS FROM APUG CADRE

S. No.	Name of the officer & Designation	Permanent residence
1.	2	3
1.	Mr. Kamar Alam, I.G.P. Baluchistan (BPS - 21).	Hyderabad (Sindh).
2.	Mr. G. Moinuddin, DIG. Spl. Bracnh, Quetta (BPS-19).	Lahore (Punjab).
3.	Mr. Ahsan Mukhtar Ashraf, DIG. Sibi (BPS-19).	Peshawar (NWFP).
4.	Mr. Sikandar Muhammad Zia DIG., Quetta/Commandant Baluchistan Reserve Police (BPS-19).	Peshawar (NWFP).
5.	Mr. Ali Sher Bugti, DIG Kuzdar (BPS-19).	Kohlu Agency (Baluchistan).
6.	Mr. Asghar Mahmood, OSD. (S&GAD) (BPS-18).	Sialkot (Punjab).
7.	Sardar Khair Muhammad, Principal P.T.C. Quetta (BPS-18).	Quetta (Baluchistan).
8.	Capt. Humayun Jomezai, OSD (CPO) (BPS-18).	Zhob (Baluchistan).
9.	Mr. Pervaiz, Reheem Rajput, S.P. Crime Branch, Quetta, (BPS-18).	Quetta (Baluchistan).
10.	Mr. Muhammad Javed, S.P./A.C.E. Quetta. (BPS-18).	Zhob (Baluchistan).
11.	Mr. Pervaiz Akbar Lodhi, SPP. Quetta (BPS-18).	Sheikhupura (Punjab).
12.	Mr. Shariq Haseeb Khan Bangulzai, AIG, Finance CPO., Quetta (BPS-18).	Quetta (Baluchistan).
13.	Agha Muhammad Yousaf, Dy. Commandant, B.R.P., Quetta (BPS-18).	Kalat (Baluchistan).

1	2	3
14.	Mr. Muhammad Umer Sabir, Director Provincial Control Room (BPS-18).	Quetta (Baluchistan).
15.	Malik Dad Khan, AIG. Establishment Police CPO., Quetta (BPS-18).	Jhatpat (Baluchistan).
16.	Mr. Tassadaque Hussain, AIG, (Gen.) Quetta, (BPS-18).	Sahiwal (Punjab).
17.	Mr. Abdul Khaliq Khan., Addl. S.P. Quetta (BPS-18).	Lahore (Punjab).
18.	Mr. Hamid Zeb. S.P. Nasirabad (BPS-18)	Quetta (Baluchistan).
19.	Mr. Chuttal Khan Chachar, S.P. Spl. Bracnh, Quetta (BPS-18).	Sukkur (Sindh).
20.	Mr. Riaz Ahmed, ASP. Baluchistan (BPS-17).	Quetta (Baluchistan).
21.	Mr. Abid Hussain Natkani, ASP, Baluchistan (BPS-17).	Zhob (Baluchistan).
22.	Mr. Khan Gul, ASP, Baluchistan (BPS-17).	Zhob (Baluchistan).
23.	Mr. Shoukat Hayat, ASP Baluchistan (BPS-17).	Peshawar (NWFP).
24.	Capt. Maqsood Ahmed Kichi, ASP. Baluchistan (BPS-17).	Punjab

#### Summary

BPS-21	...	...	1
BPS-19	...	...	4
BPS-18	...	...	14
BPS-17	...	...	5

Annexure II

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF POLICE OFFICERS  
 BELONGING TO BALUCHISTAN WHO ARE SERVING OUTSIDE  
 THE BALUCHISTAN PROVINCE

S. No.	Name of the officer	Scale	Designation
1.	Mr. Mohsin Manzoor	20	Addl. I.G. Police Sindh.
2.	Mr. Abdul Aziz Jafar	19	Director Afghan Refugees Organization Islamabad.
3.	Saeed Shafqat Khan	19	Deputy Director, Intelli- gence Bureau.
4.	Mr. Saud Gohar.	18	Deputy Director, F.I.A.
5.	Mr. Muhammad Nasrullah Khan	18	Deputy Director, F.I.A.
6.	Mr. Shoukat Hayat	18	S.P. Crime Branch, Lahore
7.	Mr. Musa Khan Silachi	18	S. P. Pakistan Railways Police.
8.	Capt. (Retd.) Zubair Mahmood	17	A.S.P. Punjab.
9.	Sardar Abdul Majeed.	17	A.S.P. Sindh.

جناب محمد طارق چوہدری : جو پی ایس پی افسران صوبوں سے باہر بھیجے جاتے ہیں یا باہر سے صوبوں میں بلائے جاتے ہیں ان کی کوئی خاص ریشہ ہوتی ہے یا بس یوں ہی الٹی بھیج دیئے جاتے ہیں کیوں کہ اس میں ۲۴ پی ایس پی افسر کام کر رہے ہیں اور ۹ پی ایس پی افسر صوبہ بلوچستان سے باہر کام کر رہے ہیں کیا یہ صوبہ بلوچستان میں نہیں کھپائے جا سکتے تھے ۔

Mr. Wasim Sajjad : Sir, PSP is a whole Pakistan service and these officers are posted in Provinces even other than their Provinces of domicile with a view to achieve national integration and also integration between the services.

میر حسین بخش بنگلزئی : کیا محترم وزیر صاحب یہ فرمائیں گے کہ جناب قمر عالم صاحب آل جی پولیس کتنے عرصے سے بلوچستان میں تعینات ہیں

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I don't know the exact period but he is there at least for 2-½ years, but I think the Minister of Interior may be able to give further information.

Malik Nasim Ahmed Aheer : Over three years Sir.

میر حسین بخش بنگلزئی : کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں گے کہ بلوچستان کے جو افسر باہر بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد سات ہے ۔

جناب چیئر مین : وزیر صاحب ۹ بتا رہے ہیں ۔

میر حسین بخش بنگلزئی : دو تو غلط ہیں جناب ، وہ تو پہلے ہی ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں ان میں سے جناب محمد نصر اللہ خان اور جناب موسیٰ خان سیلاچی یہ تو بلوچستان میں کام کر رہے ہیں ، ۹ نہیں ہیں دو ہیں اور باہر سے بلوچستان کے اندر دس آدمی بھیجے گئے ہیں تو طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا ہے ۔

جناب چیئرمین: میرے خیال میں وہ 9 کی اطلاع جس وقت کی دی گئی ہے وہ صحیح ہے اب ممکن ہے کہ کہیں اور بدل گئے ہوں کیوں کہ نام دیئے ہوئے ہیں منسلک II میں اور ان کا عہدہ اور پوسٹنگ بھی دی ہوئی ہے۔

میر حسین بخش بنگلڑی: وہ تو جناب ایک سال سے وہاں کام کر رہے۔

Mr. Chairman : Mr. Wasim Sajjad Sahib, can you throw some light on this ?

Mr. Wasim Sajjad : Sir, what is the question ?

Mr. Chairman : The question is that instead of 9 there are only 7 Officers who are serving outside the Province.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, this list indicates 9, I will check it up, if there is any specific name and the honourable Senator feels that it has been wrongly shown. I can get information in respect of that officer.

آپ نصر اللہ خان صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔  
میر حسین بخش بنگلڑی: نصر اللہ خان صاحب اور بٹلرے پر جناب  
موسا خان سیلاچی صاحب -

These two officers are serving there for a year.

Mr. Wasim Sajjad : Sir, I will get information and inform the honourable Senator Sir.

جناب چیئر مین: ٹھیک ہے اگلا سوال، پروفیسر خورشید احمد۔

BANK DACOITIES 1985-88

2. \*Prof. Khurshid Ahmed (put by Mr. Hassan A. Shaikh): Will the Minister for Interior be pleased to state :

(a) the total number of bank dacoities committed during the period from 1st March, 1985 to-date indicating also the names of the banks, date of dacoity and the amount looted in each case separately with province-wise break-up ; and

[Prof. Khurshid Ahmed]

(b) the number of dacoities arrested in these cases and the details of sentence or punishment, if any, awarded to the culprits in these cases?

Malik Nasim Ahmed Aheer : (a) Total number of bank dacoity cases reported in :—

Islamabad ...	...	...	...	...	1
Punjab ...	...	...	...	...	33
N.W.F.P. ...	...	...	...	...	Nil.
Baluchistan ...	...	...	...	...	Nil.
Sindh ...	...	...	...	...	65

Further details are attached.

(b) Total number of persons arrested in these offences was :—

Punjab ...	...	...	...	...	77
N.W.F.P. ...	...	...	...	...	Nil.
Baluchistan ...	...	...	...	...	Nil.
Sindh ...	...	...	...	...	30

Annexure I

GOVERNMENT OF PAKISTAN

MINISTRY OF INTERIOR

ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY

Only one Bank dacoity occurred during the period from 1st March, 1985 to date. The case was registered on the report of Mr. Nadeem Saeed of American Express, Islamabad which stated that on 13th October, 1987 at about hours 4 armed persons entered the premises of American Express Bank, anatched money from Mr. Idrees Khan at pistol point and fled away. The following amount was taken :—

- (a) US \$ 3363 in cash.
- (b) US \$ 13370 in traveller cheques, unsigned.
- (c) Pak. Currency Rs. 193,143/65.

No accused has so far been arrested in this case. Investigation is preceeding.

## PROVINCE OF PUNJAB

## QUESTIONS AND ANSWERS

1201

Sr. No.	Name of Distt.	Name of Bank	Date of Deceit	Amount Looted	Recovered	No. of Deposits arrested	Sentence and punishment awarded	Remarks
1.	Lahore	U.B.L., Hanjarwal	4-7-1985	125600	—	—	—	Untraced.
2.	Lahore	U.B.L., Wazir Col.	5-7-1986	586000	586000	2	—	Pending Trial
3.	Lahore	M.C.B., Model Town	31-7-1986	2000000	2000000	4	—	Do.
4.	Lahore	H.B.L., Gulberg Lady Branch.	28-11-1986	2000000	2000000	4	—	Do.
5.	Lahore	H.B.L., Circular Road.	20-10-1987	1830016	1830016	8	—	Do.
6.	Sheikhupura	N.B.P., Faizabad	6-5-1985	102494	—	—	—	Untraced.
7.	Sheikhupura	N.B.P., Chabran	2-6-1986	123757	123757	3	—	Untraced.
8.	Gujranwala	H.B.L., Kanjriwala	23-12-1987	128226	—	—	—	—
9.	Gujranwala	A.P.I., Kanjriwala	6-4-1988	17653	—	—	—	—
10.	Gujranwala	National Industrial Corp., & Finance, Kanjriwala.	10-5-1988	8397 cash 9900 Bond.	—	—	—	—
11.	Gujrat	H.B. Ltd.	12-2-1986	140681 Gun one.	110681 Gun one.	3	—	Pending Trial.
12.	Gujrat	N.B.P.	26-4-1987	95400	25000 Motor 20000 Cycle one.	1	Death sentence with a fine of Rs. One lac in Murder and R.I. 10 year Robbery.	—
13.	Gujrat	H.B. Ltd.	6-4-1988	63675	35000	2	—	Recommended for trial by Spl. Court.
14.	Gujrat	H.B. Ltd.	23-4-1988	18353	—	5	—	Under Investigation.
15.	Sialkot	H.B. Ltd.	19-12-1985	12000	12000	—	Acquitted.	—
16.	Sialkot	Allied Bank	28-6-1986	26966	21734/61	7	6 convicted for 10 years R.I. with fine Rs. 50,000 each while one acquitted.	—
17.	Sialkot	Do.	21-7-1987	18000	18000	—	—	Pending trial.
18.	Chakwal	H.B. Ltd.	7-7-1987	42000	42000	—	—	Untraced.
19.	Sargodha	H.B. Ltd.	21-5-1986	102602	27000	5	—	Pending trial.
20.	Sargodha	U.B. Ltd.	12-11-1986	without loss.	—	4	—	Do.
21.	Bhakkar	M.C.B.	10-2-1986	—	—	3	All the three sentence to death and 5 years R.I.	—

Sr. No.	Name of Distt.	Name of Bank	Date of Depoity	Amount Looted	Recovered	No. of Dacoits arrested	Sentence and punishment awarded	Remarks
22.	Faisalabad	.. N.B.P.	.. 14-6-1986	75000	—	—	—	Untraced.
23.	Faisalabad	.. U.B. Ltd.	.. 3-9-1986	45150	45150	4	10 years RI with fine of Rs. 12,000 to each.	—
24.	Faisalabad	.. M.C.B.	.. 28-12-1986	128697	128697	3	10 years RI with fine of Rs. 50,000 to each.	—
25.	Rawalpindi	.. H.B.L.	.. 8-11-1986	111817	111817	4	Convicted, one sentenced to death, two RI 4 years while one acquitted.	—
26.	T.T. Singh	.. H.B.L.	.. 27-9-1986	79406	—	—	—	The accused involved in this case are facing trial in A.K. The recovery of stolen property is being made on their transfer to local Police.
27.	Multan	.. U.B.L.	.. 4-4-1985	268000	268000	5	2 sentenced to death and 3 acquitted.	—
28.	Multan	.. H.B.L.	.. 21-11-1986	49193	49193	4	—	Under trial.
29.	Multan	.. U.B.L.	.. 17-6-1986	78196	—	—	—	Under Investigation.
30.	Multan	.. H.B.L.	.. 12-6-1986	30000	30000	—	—	Do.
31.	Multan	.. H.B.L.	.. 1-2-1987	20541	20541	2	—	Under trial.
32.	Khanawal	.. H.B.L.	.. 8-11-1987	5000	5000	2	Awarded Capital Punishment.	—
33.	R. Y. Khan	.. H.B.L.	.. 28-2-1988	167324	68100	2	—	—

SINDH

INFORMATION REGARDING DACOITIES IN SINDH

Ranges	Amount looted	Recovered	Number of Cases discharged	Convicted	Pending in Courts	Pending investigation	IRT
Karachi ..	1,70,52,800	11,07,867	1	-	13	20	4
Hyderabad	46,08,921	10,89,000	-	-	3	9	5
Sukkur ..	36,73,989	-	-	-	2	7	1
Total ..	2,53,35,710	21,96,867	1		18	36	10

Syed Abbas Shah : Supplementary question. Information given regarding dacoities in Sindh, the amount looted in high figure, has any special arrangement been made to control this at Karachi?

ملک نسیم احمد آہیر: یقیناً جناب اس سلسلے میں کراچی میں اور سندھ میں یہ وارداتیں کچھ زیادہ ہی بڑھی ہیں اور ہم اس سلسلے میں اقدامات اٹھارے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ امر ہے اور میرا خیال ہے اس پر صرف یقین دہانی سے کام نہیں چلے گا جب تک اس کے مثبت نتائج سامنے نہیں آئیں گے، بہر حال ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں اور اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔

Syed Abbas Shah : Sir, in the list the Provinces in which the dacoities have been committed, I bring to your notice item No. 12, 21, 25 and 27 they say that death sentences have been given. Whether these were the PP persons who have been given death sentences or executed or still they are just under trial?

Malik Nasim Ahmed Aheer : As far as I know, they have been given death sentences; whether they have been executed or not, I think, I need a fresh notice for that, Sir.

Mr. Chairman : Thank you. Fresh Notice.

Mr. Ahmedmian Soomro : Sir, answer to the number of dacoities in Sindh is 65 and the number of persons arrested is only 30—what action has the Government taken to improve this situation?

**Malik Nasim Ahmed Aheer :** Sir, I think, while winding up the discussion on the adjournment motion I mentioned that we are going to reorganize the entire police system and I think, with that, we do hope that the situation would be improved.

**Mr. Ahmedmian Soomro :** I asked Sir, what action has been taken so far and not, what they will do ?

**Malik Nasim Ahmed Aheer.:** Sir, we have already taken enough steps but I think, despite the fact that the Government has made best of its efforts, we have skilled police to some extent and if we were not of that vigilant, may be the incidents of dacoities would have been still more. But I am not complacent about it, I think, we are not satisfied and the things have got to be improved and we are trying to improve and *Insha Allah*, in due course of time, with the more manpower, better trained police service, I think, that the situation would be got under complete control.

**Mr. Chairman :** Thank you.

**Mr. Ahmedmian Soomro :** Is this the vigilance of Government that 65 dacoities, total number of persons arrested is only 30? Is this a good vigilance ?

**Mr. Chairman :** The same gang of dacoits could have committed more than one dacoity.

**Malik Nasim Ahmed Aheer :** It could have been worse.

**Mr. Chairman :** At any rate, I think, you (Mr. Ahmed Mian Soomro) are now the Chairman of the Committee to look into all these things and I hope, you will come out with solutions

**Mr. Ahmedmian Soomro :** I hope, I will get cooperation from the Government.

**Mr. Chairman :** Most certainly. I think, that the Minister had assured on the first day.

Next question—Qazi Abdul Latif Sahib.

PRISONERS IN JAILS UPTO 31-3-1988

†15. \*Qazi Abdul Latif : Will the Minister for Interior be pleased to state the total number of prisoners in various Jails of Pakistan as of 31st March, 1988 indicating also the number of accused in Judicial Lockup with province-wise break-up ?

Malik Nasim Ahmed Aheer : As on 31st March, 1988.

1. (a) Total number of prisoners in all jails of Pakistan ... .. 44092

(b) Province-wise break-up:—

Punjab ... ..	26798
Sindh ... ..	9080
N.W.F.P. ... ..	6512
Baluchistan ... ..	1702
Total ... ..	44092

2. Number of accused in judicial lock-up :—

Punjab ... ..	988
N.W.F.P. ... ..	394
Baluchistan ... ..	1388
Sindh ... ..	927
Total ... ..	3697

جناب چیئر مین : ضمنی سوال ؟

قاضی عبداللطیف : ضمنی سوال - اسلام آباد میں کوئی بھی صاحب

جرات نہیں تھا کیوں کہ اسلام آباد کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔

† Deferred from 9th July, 1988.

ملک نسیم احمد امیر: جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اسلام آباد میں شاید ہی کوئی جیل ہوگی میں اپنی لاعلمی اور کوتاہی پر شرمندہ ہوں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کوئی جیل ہے۔  
جناب سپیئر مین: پنجاب کے فنگرز میں غالباً شامل ہوں گی۔

قاضی عبداللطیف: ایجنسیاں کہاں شامل ہیں یہ صوبہ سرحد کی ایجنسیاں کس میں شامل ہیں۔

ملک نسیم احمد امیر: فائنا والی بی۔ ان کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے اگر نوٹس دیں گے تو میں آپ کو دریافت کر دوں گا۔

قاضی عبداللطیف: جناب والا! اس میں سیاسی قبضی کتنے ہیں۔

ملک نسیم احمد امیر: جناب یہ تو ایسا سوال ہے جس کے لئے مجھے نوٹس درکار ہوگا۔ آپ نے صرف تعداد پوچھی تھی۔ اگر تھوڑی دیر آپ پوچھیں کہ اس میں پوروں کی تعداد کتنی تھی، ڈاکوؤں کی کتنی تعداد ہے، سمرگلروں کی کتنی تعداد ہے تو میرے پاس یہ فنگرز تیار نہیں ہوں گے آپ نے سوال ایسا کیا تھا مجھے آپ کے موٹے فنگرز فراہم کرنے تھے میں نے آپ کی خدمت میں کر دیئے۔

قاضی عبداللطیف: میرے خیال میں جناب والا! اصل سوال میں یہ تھا جس میں آپ نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ مجرموں کی تعداد ہے۔

ملک نسیم احمد امیر: قاضی صاحب آپ کو سمجھے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے بتایا کہ قبضی وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ سزا ہو چکی ہوئی

ہے اور عدالتی حوالات میں جن ملزمان پر مقدمے ابھی چل رہے ہیں۔ ان کی تعداد میں نے آپ کو علیحدہ بتا دی ہے تو اب اس کی تفصیل بتانے کے لیے کہ اس میں قتل کے کتنے قیدی ہیں، سیاسی قیدی کتنے ہیں، مجھے فریش نوٹس درکار ہو گا۔

جناب چیئر مین: قاضی صاحب آپ کو مزید تفصیلات کیا درکار ہیں۔

قاضی عبداللطیف: میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس لسٹ میں آتے ہیں۔ سیاسی قیدی حوالاتی ہیں یا مجرموں کی لسٹ میں آتے ہیں۔

ملک نسیم احمد اسپر: ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مجرم تو وہ ہے جس کو سزا ہو چکی ہے، ملزم وہ ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے اور وہ انڈر ٹرائل ہے۔

قاضی عبداللطیف: کیا یہ بھی بتا سکیں گے ۱۶ ایم پی او اور تین ایم پی او کے تحت کوئی قیدی ہیں۔

ملک نسیم احمد اسپر: میرے علم میں اب تک نہیں ہے جب تک آپ مجھے تازہ نوٹس نہ دیں۔

جناب چیئر مین: میرے خیال میں فریش نوٹس دے دیں تو بہتر ہو گا۔

جناب محمد اسحاق بلوٹ: عدالتی حوالات میں ملزمان کی تعداد بلوچستان میں ۱۳۸۸ کیوں ہے۔

ملک نسیم احمد اسپر: یہ تو حکومت بلوچستان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں۔

جناب محمد اسحاق بلوچ : میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں جب کوٹے کی بات آتی ہے ۲۶۵ کی تو ۱۶۵ ملتا ہے جب بند ہونے کی بات ہے تو بلوچستان میں زیادہ ہیں۔

جناب چیئر مین : میرے خیال میں مقدمات کی ڈسپوزل کچھ آہستہ نظر آتی ہے اس لیے حوالات میں لوگ زیادہ رہتے ہیں جیلوں میں کم جاتے ہیں۔  
جناب محمد اسحاق بلوچ : یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفتار کیوں سست ہے۔

جناب چیئر مین : وہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ جناب محمد محسن صدیقی صاحب۔

8. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui : Will the Minister for Interior be pleased to state :

(a) the number of foreign nationals expelled from the country for reasons of illegal entry or stay since January, 1987 ; and

(b) the measures, the Government has taken so far to check the entry and stay of illegal foreign nationals in the country ?

Malik Naşim Ahmed Aheer :

(a) Punjab	...	....	....	....	143
Sindh	...	...	...	...	548
N.W.F.P.	...	...	...	...	344
Baluchistan	...	...	...	...	265

(b) In September, 1986, visa restriction were imposed upon foreign nationals with the result that possibility of entry/illegal stay of foreigners in Pakistan is minimum. Foreigners residing illegally in Pakistan are dealt with under the Foreigner's Act, 1946. The Provincial Governments have been instructed from time to time that the foreigners who have been staying ille-

gally in Pakistan should be given notice to leave the country immediately. Those who failed to do so should be prosecuted. Simultaneously, concerned Embassies are informed through the Foreign Office to arrange their repatriation/deportation of their nationals on completion of their sentences. If the Embassies fail to make arrangements for repatriation in time, the foreign nationals are pushed across the border/deported. For preventing illegal entry of foreigners into Pakistan instructions to all immigration authorities at Airports/Checkposts are issued from time to time asking them to be careful in checking their travel document at Airports/Points of entry. Border authorities have also been asked to exercise extra vigilance to prevent illegal entry of foreigners into Pakistan from across the border.

جناب چیئرمین : ضمنی سوال کوئی نہیں۔ اگلا سوال

ILLEGAL ENTRY FROM THE BORDER OF SINDH

9. \*Mr. Muhammad Mohsin Siddiqui (put by Mr. Shah Muhammad Khan): Will the Minister for Interior be pleased to state :

(a) the steps taken by the Government to check illegal entry from India through eastern borders generally and from the border of Sindh particularly ; and

(b) the total number of persons arrested during the last three years on charges of making illegal entry into Pakistan from India through Sindh border, indicating also the action, if any, taken against them ?

Malik Nasim Ahmed Aheer : (a) Already replied on 9th July, 1988.

(b) It has been intimated by the Pakistan Rangers that 82 Bangladeshes, Burmeese, Afghanis, Iranians and Indians were entered into Pakistan during the period from 1986 to 1988. The Bangladeshes/Beharies were pushed back into India. The remainings were handed over to Police for registration of legal action against them under the relevant law for illegal entry into Pakistan.

2. The Government of Sindh Home Department have reported that 352 Indian illegal enterants were arrested and produced in the courts of law where they were fined/sentenced and on the order of courts expelled to India.

جناب چیئرمین : ضمنی سوال ؟ نہیں ہے۔

So, this brings us to the end of the questions.

## LEAVE OF ABSENCE

جناب چیئرمین : جناب سید شفقت حسین شاہ صاحب اپنی علالت کی بنا پر ایوان میں ۳ جولائی تا ۹ اگست شرکت نہیں کر سکے۔ اس لیے انہوں نے ایوان سے ان تاریخوں کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب اعجاز علی خان جتوئی چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایوان میں ۷ تا ۹ اگست شرکت نہیں کر سکے۔ اس لیے انہوں نے ایوان سے ان تاریخوں کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب عالم علی لالی کا صاحب نے اپنی ذاتی مصروفیات کی بناء پر ایوان سے ۱۵ تا ۲۱ اگست رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین : جناب میر سہراب خان کھوسو نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۱۳ تا ۲۱ اگست رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب خواجہ محمد حمید الدین صاحب نے اپنی مصروفیات کی بنا پر ایوان سے ۱۳ تا ۲۹ اگست رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان انکی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی ہے)

جناب چیئرمین: جناب محمد حسن صدیقی صاحب نے اپنی اہلیہ کی علالت کی بنا پر ایوان سے ۱۳ اگست کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان ان کی رخصت منظور کرتا ہے۔

(رخصت منظور کی گئی ہے)

جناب چیئرمین: جناب خان میر افضل خان وزیر پیدوار اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایوان میں ۱۳ اگست کو شرکت نہیں کر سکیں گے۔

جناب محمد اسلم خان صاحب سینئر وزیر اور وزیر مواصلات اطلاع دیتے ہیں، اپنی ناسازی طبع کی بنا پر ایوان میں ۱۳ اگست کو شرکت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ختم ہوا۔

Mr. Ahmedmian Soomro : Sir, in our questions, we got a reply on the question of cars given to the Governors and in respect of your ruling which is on record that any incorrect answer does not constitute a breach of privilege, we have all respects for that ruling Sir, but may I say that we have now been everyday reading contradictions from ex-governors as to the incorrectness of the reply given to this House and on the other hand, even the honourable Finance Minister has also said harsh about the press and asked them to give correct reporting but I think, the press merely reported the answers as given in this House. They did not make any statement of their own. So, would I, through you, request the Finance Minister to please give us the correct position as to how many cars really have been bought?

**Mr. Chairman :** I think, you were not present in the House on that day. The Minister made amends for the incorrect answer which had come from his Ministry and that would be placed on record. The ruling on that was that 'as soon as' that is placed on record that would be taken as a part of the reply to the original question as a supplementary answer and if honourable members would wish to raise further supplementaries on the written reply which comes from the Ministry they would be free to do so.

**Mr. Ahmedmian Soomro :** Because that has embarrassed the position of those Governors who are known to be honest.

**Mr. Chairman :** That is why actually the reply came the very next day.

**Mr. Hasan A. Shaikh :** Point of order. Would you like to remind the Finance Minister to circulate the reply to the members beforehand so that we will come with supplementaries otherwise we would not know.....

**Mr. Chairman :** As soon as the Secretariat receives it, if you so wish, we will circulate it.

**Mr. Hasan A. Shaikh :** That is necessary. Then we can ask supplementaries because I do not accept the statement made by Mr. Ahmedmian Soomro that some of them are known to be honest. I do not accept that.

**Mr. Chairman :** Well, let us not go into that. I think those poor fellows are not in the House and they cannot defend their position.

آج میں ہاؤس کی کارکردگی پر آپ کو خراج تحسین پیش  
 کروں گا کہ نہ آج adjournment motions ہیں اور نہ privilege motions  
 ہیں، جو پرانا کام pending تھا وہ سب ہم نے ختم کر لیا ہے۔ اب ہم  
 بالکل up-date چل رہے ہیں۔

ایک معزز رکن: میرے خیال میں ممبران تنہک گئے ہیں۔

جناب چیئر مین: نہیں، نہیں، .... کوئی بھی نہیں تھا۔

Now we can start the debate on the motion which I think was left incomplete.

قاضی صاحب (قاضی عبداللطیف) آپ نے بحث کو پھر جاری رکھنا ہے۔ لیکن اب دس منٹ کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنی تقریر نماز کے بعد شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اس وقت ہم اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دس منٹ سے زیادہ وقت لینا چاہیں تو پھر یہ صورت ہوگی۔

قاضی عبداللطیف : شاید اس سے زیادہ وقت لوں۔

Mr. Chairman : Then, I think we would adjourn for prayers and meet again at 7.30 P.M. So, the House stands adjourned for prayers.

[The House then adjourned for Maghrab prayers].

[The House re-assembled after interval with Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair].

#### DISCUSSION ON THE PROMULGATION OF THE ENFORCEMENT OF SHARIAH ORDINANCE

جناب چیئرمین : بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت آرڈیننس پر بحث جاری رکھتے ہیں جناب قاضی عبداللطیف صاحب علماء کے مسودے اور فائنل مسودے میں جو تضاد ہے اس کی نشاندہی کر رہے تھے جس طریقے پر یہ آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے وہ کچھ اصول فقہ بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ میں قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کو جاری رکھیں۔

قاضی عبداللطیف : محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

[Qazi Abdul Latif]

جناب والا! میں نے گزشتہ دن شریعت کی تعریف اور اس کی تشریح اور اس کی بالادستی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ میری گزارش یہ تھی کہ شریعت کی بالادستی کے متعلق جو عبارت وہاں لکھی گئی تھی، وہ جامع ترین تھی اور اس میں جو یہاں رکھی گئی ہے اس میں نقائص ہیں اور اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ جس غرض کے لیے ہم یہ آرڈی نٹس جاری کرنا چاہتے ہیں۔ لو ال ترمیمی بل، جس کا مسودہ اس وقت بھی میسر پاس موجود ہے اس کی عبارت بھی یہی تھی کہ شریعت پاکستان کا اعلیٰ ترین قانون ہوگی اور اسے دین ذیل طریقے پر نافذ کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ تفصیلات بھیجیں کہ کسی قانون میں جو کچھ بھی ہو، اس کی پرواہ کئے بغیر اسی کو بالاترین قانون کہا جائے گا۔

(قدرے توقف کے بعد)

میں اسے پڑھے دیتا ہوں۔

”اسلامی احکام حسب طرح کہ قرآن و سنت میں دیئے گئے ہیں، اعلیٰ ترین قوانین ہوں گے اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے وضع کردہ قوانین کے لیے سرچشمہ ہدایت ہوں گے۔“

یہ ہے نویں ترمیمی بل کی عبارت، جو یہاں اس ہاؤس نے پاس کی تھی اور ہمارے محترم وزیر عدل صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر تو یہی الفاظ تھے ”کہ اعلیٰ ترین قوانین ہوں گے۔“ اور اس کے بعد وہ الفاظ تھے جو اصل مسودے میں یہاں شامل ہیں۔

بیسری بات یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو جب دستور کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور اس میں صراحت یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر جو قانون بھی بنایا

جائے گا ، وہ ہم بحیثیت ایک امانت کے جاری کر رہے ہیں ، تو اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اس کے امانتدار ہیں اور اسی کے مطابق یہاں ہمیں قانون سازی کرنا ہوگی۔ بہر حال یہ ”بالا دستی“ کے متعلق گزارشات ہیں کہ وہ عبارت جو اصل مسودے کے اندر شامل تھی یہاں اس کے اندر، انتہائی cutting کی گئی ہے ، اور اس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دفعہ ۴ آتی ہے۔ ”عدالتیں شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گی۔“ یہ اصل عبارت اس میں یہ ہے۔ ”اگر کسی عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا جائے کہ کوئی قانون ، یا قانون کا کوئی حکم شریعت کے منافی ہے ، تو عدالت ، اگر اسے اطمینان ہو کہ سوال غور طلب ہے ، ایسے معاملات کی نسبت جو دستور کے تحت وفاقی شرعی عدالت کے اختیار سماعت کے اندر آتے ہوں ، وفاقی شرعی عدالت سے استصواب کرے گی اور مذکورہ عدالت مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر سکے گی اور اس کا جائزہ لے سکے گی امر نتیجہ طلب کے ساتھ کہ ۶۰ دن کے اندر اندر فیصلہ کر سکے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر سوال مسلم شخصی قوانین کسی عدالت یا ٹریبونل کے ضابطہ کار سے متعلق کسی قانون ، کسی مالی قانون ، یا محصولات یا فیس کے عائد کرنے اور وصول کرنے یا بنکاری یا بیمہ کی عمل کاری اور اس کے طریقہ کار سے متعلق کسی قانون سے متعلق ہو گا تو عدالت امر نتیجہ طلب کو عدالت عالیہ کے حوالے کر دے گی جو کسی سوال کا ۶۰ دن کے اندر اندر جواب دے گی۔ یہ ہے وہ عبارت جو اصل میں تھی لیکن یہاں پر انہوں نے جو عبارت دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کا ضابطہ کار ، اس سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے حالات کہ سارا دار و مدار اسی قانون کو مؤثر ترین بنانے کے لیے ہونا

[Qazi Abdul Latif]

ہے کہ اس کا ضابطہ کار اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ زید نے میری چوری کی ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ زید نے مجھے مارا ہے۔ اب ضابطہ کار اس کے لیے یہ ہے شریعت کے اندر کہ مدعی، مدعا علیہ، شاہد اور حاکم، یہ چار چیزیں ہیں جو مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لیے مواد ہوتی ہیں اور ان چاروں کے اجتماع کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، شاہد کون ہے اور حاکم کون بن سکتا ہے ان کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ مدعی وہ ہے کہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی جانب سے دوسرا دعویٰ نہ ہو۔ تو مدعی وہ کہلاتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے اور مدعا علیہ وہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اور ثبوت دینے کے لیے شاہد ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارا ضابطہ کار آج کے مقدمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے پولیس کے سامنے فوجداری کا تو مدعی سرکار ہے اور وہ دعویٰ کرنیوالا جس نے اپنے متعلق کہا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے، یا مجھے پیٹا گیا ہے، یا میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، وہ بحیثیت گواہ کے آتا ہے، مستغیث یہاں سرکار ہے اور تفتیش کنندہ بھی سرکار ہے، پولیس ہے اور اس وقت تک ہم نے عدالتوں کو انتظامیہ سے مکمل طور پر علیحدہ بھی نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ فیصلہ کرنیوالا بھی حکومت، تفتیش کرنے والی بھی حکومت، اور مدعی بھی حکومت جب تک مدعی، مدعا علیہ، اور گواہ کی تعریف علیحدہ نہیں ہوگی اس وقت تک مقدمہ کا فیصلہ صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا اور مستغیث کو اپنا حق نہیں پہنچ سکے گا۔

دوسری گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ مدعا علیہ کی بھی تعریف نہیں

ہے۔ مثال کے طور پر کسی ڈکیتی کے اندر آٹھ آدمی گرفتار ہوتے ہیں، ان پر دعویٰ ہے وہ مدعا علیہمان ہیں لیکن چھ مہینے کے بعد، چار مہینے کے بعد، ان میں سے دو چار کو سلطانی گواہ بنا کر کے معاف کر دیا جاتا ہے، اور بقایا پر کیس ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو جو شخص کل تک مدعا علیہ تھا، وہ گواہ کیسے بن گیا، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ حجت لازمہ تو ہے، اس کی اپنی حد تک تو حجت ہے لیکن اس کا یہ اقرار دوسرے پر حجت معتد بہ نہیں۔ اس کی ذات تک وہ ملزم ہے اور اسی پر اس کو پکڑا جائیگا لیکن یہ اس کا کہنا کہ ہم نے یہ چوری کی ہے یا ہم نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، یا ہم نے فلاں شخص کو مارا ہے، مشترکہ طور پر جب کہ کل یہ مدعا علیہ تھا، مدعا علیہ شریعت کے اندر گواہ نہیں بن سکتا۔

اسی طریقے سے گواہوں کا معیار اور گواہوں کا نصاب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضوابط ہیں کہ جو ایک کیس کو ثابت کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ جب تک آپ ضابطہ کو اس کے اندر نہیں لائیں گے، جب کہ اصل مسودے کے اندر ضابطہ موجود تھا، اس کے بعد اس کی تصحیح کی گئی ہے،۔۔۔۔ اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔۔۔۔ کہ ایک بڑھیا خاتون کے گھر کوئی باز آگیا جب اسے اس نے پکڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن کے نوک بہت بڑھے ہوئے ہیں، چونچ کی نوک بہت بڑی ہے تو اسے اس پر بڑا رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اوسو۔ آپ تو کھا بھی نہیں سکیں گے۔ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس نے قینچی لی اور اس کے ناخن بھی کاٹ دیئے، اور

[Qazi Abdul Latif]

اس کی پورچ بھی کاٹ دی۔ جس کی وجہ سے جو اس کا کمال تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس کو بازار میں بٹھاؤ اور اس کے ساتھ ایک بورڈ لکھ دو کہ جو ناقد رشتناسوں کے پاس جائے گا تو اس کی حالت یہی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جو اس میں ایک کمال تھا، ہمارے ضوابط کا، اسے منسوخ کر کے انگریزوں نے اور ان لوگوں نے جو ہم پر مسلط تھے ان ضوابط کو ختم اور منسوخ کر کے اپنے ضوابط ہم پر مسلط کیے اس لیے کہ وہ ہمیں اپنی نوآبادی کہتے تھے، اور فوجبہاری مقدمات بنا کر کے جو ان کے مخالفین تھے ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میں گزارش کروں گا کہ اصل عبارت کے اندر ضابطہء کار بھی موجود ہے لیکن یہاں ضابطہء کار اس سے نکال دیا گیا ہے۔ اور صرف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر سوال مسلم شخصی قانون یا مالی قانون یا محصولات و عجزہ کا ہے۔ تو ضابطہء کار اس سے نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہء کار اس کے اندر لانا نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ اس کے اندر نہیں ہوگا تو اس قانون سے ہم جو مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی حاصل نہ ہوں گے۔

تیسری بات یہ ہے کہ یہاں عائلی اور مالی قوانین کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وقت انکو عدالت میں چیلنج کیا جاسکتا ہے۔ اب یہاں جو دفعہ ۴ کی عبارت ہے اگر کسی عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا جائے کہ کوئی قانون یا کوئی حکم شریعت کے منافی ہے اور عدالت کو اگر اطمینان ہو کہ سوال غور طلب ہے تو دفعہ (۱۱) بڑھا کر کے جو کہ اصل مسودے میں نہیں ہے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ کہ کوئی عدالت یا ٹریبونل بشمول عدالت عالیہ کسی زیر سماعت مقدمہ یا اس آرڈیننس کے آغاز نفاذ کے بعد شروع کی گئی

کسی کارروائی کو اس بنا پر موقوف یا ملتوی نہیں کرے گی کہ یہ سوال آیا کوئی قانون یا حکم شریعت کے منافی ہے یا نہیں۔ عدالت عالیہ یا وفاقی شریعت عدالت کے سپرد کر دیا گیا ہے یا یہ کہ عدالت عالیہ نے اس سوال کا حباثرہ لینا شروع کر دیا ہے اور ایسی کارروائی جاری رکھی گئی ہے اس میں نکتہ موصولہ کا فیصلہ مردوجہ قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ دفعہ بڑھا کر کے دفعہ ۳۰۳ میں جو اختیارات دیئے گئے تھے وہ دوبارہ سلب کر لئے گئے ہیں۔ اگر اس میں یہ کہا جائے کہ یہ دستور کی دفعہ ۲۰۳-ج میں ہے جو وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں ہے اور وہاں یہ عبارت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں جہانگن مالیات کا تعلق ہے، عائلی قوانین کا تعلق ہے اس کی سماعت وفاقی شرعی عدالت کر ہی نہیں سکتی۔ اس کو انہوں نے ہائی کورٹ کے پاس بھیجا ہے۔ اسکو بھیجا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور اسوقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دستور کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کوئی دفعہ دے سکتی ہیں اور وہ مقدمے کو ملتوی کر سکتی ہیں۔ آپ stay order نے دفعہ ۱۱ لگا کر ان کے اختیارات بھی تو سلب کر لیئے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے دفعہ ۱۱ لگا کر اس کے اندر وفاقی شرعی عدالت کی تجدید کی ہے یا وفاقی شرعی عدالت پر ہم نے جو قیود لگائی ہیں وہی بیان کیا ہے۔ لیکن سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو جو اختیارات stay دینے کے حاصل تھے وہ بھی تو آپ نے اس سے سلب کر لیئے ہیں جو دستور کے اندر ان کو دیئے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفعہ اس کے اندر بڑھا کر کے تضاد پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب قرارداد مفاد دستور کا حصہ بن گئی تو دستور کا مزاج بدل گیا اور اسی مزاج کے بدلنے

[Qazi Abdul Latif]

سے آپ کہتے ہیں کہ اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، مالیات اور عائی قوانین جنکو تحفظ دیا گیا تھا اور جن کی سماعت وفاقی شرعی عدالت نہیں کر سکتی تھی آپ کہتے ہیں کہ چونکہ قرارداد مقاصد اب دستور کا حصہ بن گئی ہے اس بنیاد پر آپ اسے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ اس کے متعلق فیصلہ دیں جب آپ ان کو اسی کے متعلق کر رہے ہیں اور ان کو اختیارات دے رہے ہیں قرار داد مقاصد کی وجہ سے، تو پھر سیری گزارش ہوگی کہ یہ اختیار پھر خود بہ خود وفاقی شرعی عدالت کو حاصل ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں ان کو اختیار حاصل ہو گیا۔ یہاں بھی حاصل ہونا چاہیے۔

چونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دستور میں یہ صریحاً ناس موجود ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اس کو نہ تو ملتوی کر سکتی ہے، نہ یہ عدالت کو کہہ سکتی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دفعہ ۴ کے الفاظ کو دیکھئے، وہاں ان الفاظ کا حاصل یہی ہے کہ مقدمہ اتنے تک ملتوی رہے گا اس لیے جب آپ یہاں لکھتے ہیں کہ اگر عدالت کو اطمینان ہو کہ سوال غور طلب ہے اگر آپ یہاں لفظ اطمینان عدالت کے لیے بڑھاتے ہیں۔ ویسے ایک شخص باہر سے بھی تو درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت از خود بھی اس کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے تو پھر یہ کہہ دینا کہ مانخت عدالت کو اگر اطمینان ہو تو اس کے بعد اس کو اس کے پاس بھیجا جائے گا۔ جب اس کے اطمینان کے بعد آپ اس کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کہیں اس وقت تک pending رکھا جائیگا۔ دوسرے الفاظ اس کے اندر یہ ہیں کہ مذکورہ عدالت مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکے گی۔ ریکارڈ طلب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب اس عدالت کی کارروائی اس وقت تک ملتوی ہی رہے گی اور اس کا معنی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل ۱۹۹ میں جو آپ عدالت عالیہ کو اختیار دیئے ہیں

اس کے اندر آپ نے ریکارڈ طلب کرنے کا مقصد یہی لیا ہے۔ کہ جب وہ ریکارڈ طلب کرے گی تو مقدمہ اس وقت تک ملتوی رہے گا جب تک وہ اس پر اطمینان نہ کرے یا ریکارڈ واپس نہ کرے۔ جب کہ آپ نے یہاں دفعہ ۴ میں ریکارڈ طلب کرنے کا اختیار بھی دیا ہے اس کا حاصل تو یہی نکلتا ہے کہ مقدمہ خود بخود ہی ملتوی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے اندر تضاد ہے دفعہ ۱۱ کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سماعت جاری رہے گی لیکن یہاں پر اس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ وہ سماعت اس وقت تک ملتوی رہے گی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ کوئی شرط لگانی ہے تو یہ لگا دیں کہ وفاقی شرعی عدالت ابتدائی سماعت یا جیسی بھی صورت ہو، فیصلہ کرے کہ آیا زیر سماعت مقدمہ موجودہ قانون کے تحت جاری رہے یا بند کر دیا جائے۔ اگر یہ عبارت آپ کے اندر لگا دیں گے یا اگر سب سے پہلے یا ابتدائی سماعت کے بعد اسے یہ محسوس ہو کہ واقعتاً اس کو وہاں رک جانا چاہیے اور اس درخواست کے اندر جان ہے اور اس نچ نے جو میرے پاس بھیجا ہے اس کا خدشہ یہی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اس کو اس وقت تک ملتوی رکھنے کا حکم دے جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس طریقے سے آپ وفاقی شرعی عدالت کو کہتے ہیں یا ہائی کورٹ کو آپ کہتے ہیں کہ دو مہینے کے اندر اندر آپ نے اس استفسار کا جواب دینا ہو گا تو میں گزارش کروں گا کہ عدالت عظمیٰ پر بھی یہ نید لگانی چاہیے کہ وہ بھی دو مہینے کے اندر اندر اس کا جواب دے۔ اگر وہ عدالت عالیہ سے عدالت عظمیٰ تک چلا جاتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے پابند کیا جائے کہ وہ بھی اس کا دو مہینے کے اندر اندر جواب دے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان

[Qazi Abdul Latif]

کے کیس سالہا سال وہاں پڑے رہتے ہیں میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے طریقہ کار یہی ہوگا۔

پانچویں بات میں یہ گزارش کروں گا کہ وہاں پر درخواست یا اپیل کی بات ہے کہ جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو بند کرادے۔ یہاں عدالت خود استفسار کر رہی ہے اور عدالت کو خود خدشہ ہے جس پر آپ نے کہا ہے کہ عدالت کو اگر اطمینان ہو تب وہ بھیج سکتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عدالت کو خود ہی خدشہ ہے۔ جب عدالت کو خدشہ ہو گیا ہے تو چاہیے کہ اس کو وہاں رکوا لیا جائے اگرچہ یہ بھی ہو کہ اس کا جواب جلد سے جلد دو اور یہی وجہ تھی کہ دو ماہ کی قید لگائی گئی تھی تاکہ وہ وہاں غیر معینہ عرصہ تک لٹکا نہ رہے اور یہ نہ ہو کہ اس کے بعد اس کی حق تلفی ہو جائے۔

چھٹی بات میں گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر وفاقی شرعی عدالت، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ یہ شریعت کے منافی ہے تو وفاقی شرعی عدالت کو تو آپ نے اختیار نہیں دیا۔ لیکن آپ نے دستور کے اندر خود بخود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، آرٹیکل ۱۸۹ میں عدالت عظمیٰ کو اور آرٹیکل ۲۰۱ میں عدالت عالیہ کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گی قانون کے مطابق اور یا وہ فیصلہ کرے گی قانون کے اصول کو دیکھ کر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون کے اصول کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا اس کا جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ اس قانون کے اصول کو دیکھ کر دینا ہے۔ جس طریقے سے وہاں پر قانون کے اصول کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہے اور اب جب اسے

یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے بھی وہ اس کا جائزہ لے تو میں سمجھتا ہوں شرعی نقطہ نگاہ سے اب اس کا یہ حق ہے کہ شرعی اصول کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق یہ فیصلہ دے تو اس کی بھی تصریح ہونی چاہیے۔ میری گزارش ہوگی کہ اس میں وفاقی شرعی عدالت ہی کو وہ اختیار دیا جائے کہ جو آرٹیکل ۲۰۱ میں یا ۱۸۹ میں عدالت عظمیٰ کو اور عدالت عالیہ کو دیا گیا ہے اور اگر یہ عذر ہو اس میں کہ اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر آپ یہ قدغن نہیں لگا سکتے وہ خود بخود اس کا فیصلہ دے سکتے ہیں اور شرعی اصول کے تحت وہ فیصلہ دے گی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔

اس کے علاوہ یہ عرض ہے کہ جو ضابطہ اس سے کاٹ دیا گیا ہے اسے اس کے اندر ضرور شامل کیا جائے۔ یہ ہے دفعہ ۴ کے متعلق اس کے بعد جناب والا! اصل مسودے میں سابقہ ۱۲ دفعات موجود تھیں۔ لیکن یہاں ایک دفعہ ۱۳ بڑھائی گئی ہے اور جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے آرڈیننس کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ مالیات، عالمی قوانین اور پروسیڈنگ کے اختیارات ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں یہاں سارے مالیات کا تذکرہ کر کے اس کو ان سے متشنی کر دیا گیا ہے۔ عبارت ان کی یہ ہے بین الاقوامی مالی ذمہ داریوں کا تسلسل، اس آرڈیننس کے احکام یا اس کے تحت کسی فیصلے کے باوجود اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے یا بعد کسی قبوی ادارے یا بیرونی ایجنسی کے درمیان عائد کردہ یا کی جانے

[Qazi Abdul Latif]

والی مالی ذمہ داریاں اور کئے گئے اور کیئے جانے والے معاہدے مؤثر، لازم اور قابل عمل رہیں گے اور کوئی عدالت بشمول عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اس کی حجاز نہیں ہوگی۔ کہ ایسی ذمہ داریوں اور معاہدوں کے متعلق اس آرڈیننس کے تحت کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے یا بعد کسی قومی ادارے یا پرونی ایجنسی اور قومی ایجنسی.....، یہ سارے کے سارے جب آپ نے اس مسودے سے نکال دیئے اور مستثنیٰ کر دیئے ہیں تو اس کے پاس رہا کیا ہے۔ یہ نو وہ بات ہوگئی..... (فارسی).... دو بھائی ایک مکان تقسیم کر رہے تھے جناب کہ بس یہ گھر کے صحن سے لیکر یہ کوٹھ کی چھت تک مجھے دیجئے.... (فارسی) لیکن چھت سے لیکر آسمان تک سارا آپ کا ہے وہی معاملہ یہاں ہے۔ آپ نے جتنی بھی مالیات لھیں وہ اس سے ساری کی ساری مستثنیٰ کر دیں اس سے پہلے ہوں چاہے اس کے بعد ہوں بین الاقوامی ہوں، غیر بین الاقوامی ہوں۔ سارے آپ نے اس سے نکال دیئے ہیں۔ میں یہاں یہ وضاحت کروں گا کہ دارالحرب کے ساتھ سود کے معاملے کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ان کے ساتھ معاملات کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ نے کسی سے مال لینا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس پر اس وقت ہم یہ نام رکھتے ہیں کہ یہ سود ہے۔ اس کے اندر اگر میں پیسے دینا ہوں اور آپ مجھے کوئی مشین دینے، میں آپ کوئی ٹریکٹر دینے، میں یا آپ کوئی بس دینے ہیں۔ کوئی چیز دیتے ہیں۔ اب اس میں سود نہیں آتا۔ اگرچہ آپ اس میں نام یہ رکھیں گے اور

میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ یہ اقتصادیات کے اصول کے مطابق نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ اور دوسری بحث ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ختم کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ مہینے کے بعد آپ اس کی رقم دیتے ہیں تو ایک لاکھ ہے۔ لیکن اگر سال کے بعد اس کی رقم دیتے ہیں تو یہ ڈیڑھ لاکھ ہے۔ یہ سود کی تعریف میں شرعاً نہیں آتا اور اس کی تحقیقات آپ سود کی کتاب سے کر سکتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ بہر حال میں اتنی گزارش کروں گا کہ بین الاقوامی جو عذر کیا جاتا ہے، ایک ہے غیر مسلموں کے ساتھ مالیات کا تعلق اور معاہدہ۔ ان کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ دارالحرب والے ہیں۔ دارالحرب والوں کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے۔ ان سے خصوصیت سے اگر ہم اسلحہ لیتے ہیں، مال لیتے ہیں یا پرزہ جات لیتے ہیں تو پھر اس کی نوعیت مزید بدل جاتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بھی اگر یہ معاملات ہوں اور اس میں بھی اگر یہی نوعیت پیدا ہو جائے تو وہ بھی سود کی تعریف میں نہیں آتے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادیات کے اصول مساوات کے یہ خلاف ہے اور اس پر بحث ہو سکتی ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے جو آپ کہتے ہیں کہ شریعت ہر کہیں ہمارے آڑے آ جاتی ہے یہ بات نہیں ہے۔

میں گزارش کروں گا کہ دفعہ ۱۳ میں یہ کہہ دینا کہ آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے یا بعد کسی قومی ادارے، بیرونی آجنسی یا ساری چیزیں

[Qazi Abdul Latif]

جو آپ نے اس میں شامل کر دی ہیں تو اس میں چھوڑا گیا ہے آپ نے سارے کے سارے تو اس میں سے نکال دیئے گئے ہیں۔ تو صرف عائلی قانون اس میں چھوڑ دیئے گئے ہیں اور عائلی قوانین وہ قانون ہے کہ جب یہاں پر لوگ ترمیمی بل پیش ہوا تھا تو ہمارے محترم وزیر انصاف نے ہی اس پر ترمیم دی تھی۔ کسی اور نے نہیں دی تھی۔ اس کو ہی آپ نے اس میں چھوڑ دیا ہے اور باقی سب مالیات اس میں سے نکال دیئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے اس آرڈیننس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہو یا بعد ہو کوئی ادارہ اس میں نہیں آئے گا۔ اس میں میری ترمیم یہ ہے۔ دفعہ ۳۱ کی عبارت یوں ہی ہونی چاہیے ”بین الاقوامی مالی ذمہ داریوں کا تسلسل اس آرڈیننس کے احکام یا اس کے تحت کسی فیصلے کے باوجود اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے کسی قومی ادارے اور بیرونی ایجنسی کے درمیان طے کردہ معاہدے مؤثر لازم اور قابل عمل رہیں گے۔ اس کے سوا ساری عبارت کو حذف کر دیا جائے“ جو بین الاقوامی معاملات ہیں۔ اس میں تو آپ اس کو محفوظ دے دیں اور اس سے پہلے جو ہوئے ہیں خصوصیت سے بعد والے ہیں۔ پھر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اگر یہ کہا جاتا ہے بھئی ہمارا بغیر قرضوں کے گزارہ نہیں ہوتا اور قرضے بغیر سود کے نہیں ملتے۔ بہر حال یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر سوچنے کی بات ہے اور اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس پر ہم بھی رائے دے سکتے ہیں۔ ملک کے اندر جو اربوں روپیہ قرض لیا جاتا

ہے۔ اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ان پر اگر کنٹرول کر لیا جائے تو ہم بیرونی قرضوں کے محتاج ہی کیوں رہیں بہر حال یہ بحث علیحدہ ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا۔

مسیر گزارش یہ ہے کہ اس کے سوا باقی عبارت حذف کر دی جائے۔ تشریح کی ابتدائی دو سطور حذف کی جائیں۔ اس میں آپ نے ۱۴ کی جو تشریح کی ہے اس دفعہ میں قومی ادارے کے الفاظ میں وفاقی یا صوبائی حکومت۔ ایک قانونی کارپوریشن، کمپنی، ادارہ ہیئت تجارتی، تجارتی ادارہ اور پاکستان میں کوئی فرد شامل ہوں گے اور بین الاقوامی ایجنسی، یہاں سے بین الاقوامی ایجنسی کے الفاظ جو ہیں۔ یہاں سے لکھا جائے اس سے پہلے جتنی عبارت ہے وہ اس سے حذف کر دی جائے یہ عبارت رکھی جائے۔ بین الاقوامی ایجنسی کے الفاظ میں کوئی بیرونی حکومت بیرونی مالی ادارہ، بیرونی مالی منڈی، بشمول بینک اور کوئی قرض دینے والی ایجنسی، بشمول کسی فرد کے شامل ہوں گے اگر وہاں پر آپ فرد کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے اور آرڈیننس کے نفاذ کے بعد بھی اور کسی قومی ادارے کو بھی شامل کرتے ہیں اور بیرونی ایجنسیوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور ملکی ایجنسیوں کو بھی شامل کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے اندر چھوڑا کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس کو دیکھیے کہ وہاں دفعہ ۱۴ کے اندر تو آپ نے الفاظ وہ رکھ دیئے ہیں کہ عدالت کے سامنے یہ سب کچھ پیش ہو سکتا ہے، لیکن دفعہ ۱۳ کے اندر آپ نے سب کچھ

[Qazi Abdul Latif]

اس سے چھین لیا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس آرڈی نانس کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے۔

اس کے بعد ۱۴ دفعہ ہے ، اب ۱۴ دفعہ کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ جناب والا! آپ نے مزید جو کچھ اسے بچا تھا سارے کا سارا اس سے واپس لے لیا ہے ، موجودہ ذمہ داریوں کی تکمیل ، اس آرڈی نانس کے مندرجات یا اس کے تحت کوئی فیصلہ کسی مالی ذمہ داری کی باضابطگی پر اثر انداز نہیں ہو گا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان باضابطگیوں کو بدستور باقی رکھتے ہیں اور اس آرڈی نانس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے۔ بشمول ان ذمہ داریوں کے جو وفاقی یا کسی صوبائی حکومت یا کسی مال یا قانونی کارپوریشن یا دیگر ادارے نے کسی دستاویز کے تحت واجب کی ہوں۔ خواہ وہ معاہدات ہوں یا نہ ہوں یا ادائیگی کے وعدے کے تحت ہوں اور یہ تمام ذمہ داریاں وعدے اور مالی پابندیاں قابل عمل لازم اور مؤثر رہیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دو دفعات بڑھا کر کے آپ نے آرڈی نانس کا استیانس کر دیا ہے میری ترمیم یہ ہے کہ ۱۴ دفعہ کلینٹا ساری کی ساری حذف کردی جائے اور دفعہ ۱۳ کے اندر وہ حصے جن کی میں نے نشاندہی کی ہے ان کو اس سے حذف کر دیا جائے۔

باقی رہا آخری آپ کا نوٹ ، آخری نوٹ میں آپ فرماتے ہیں ، تغیر و ترمیم کے لیے مستند صرف وہی رہے گا جو انگریزی زبان میں ہے ، اس کے اندر میں گزارش کروں گا کہ یہ آرڈی نانس اگر

ہمارے لیے بنایا جاتا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ۲۵ فیصد آبادی تعلیم یافتہ ہے اور ۴ فیصد بھی آپ کو وہ نہیں ملے گی کہ جو انگریزی کے مستند تعلیم یافتہ ہوں اور وہ واقعتاً انگریزی کے معانی کو سمجھ بھی رہے ہوں اور اسی وجہ سے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں ترجمہ صحیح نہیں ہوا، انگریزی میں الفاظ یہ ہیں تو اس لیے میسر میگزین اس میں یہ ہے کہ تعمیر و توضح کے لیے انگریزی اور اردو دونوں متن یکساں مستند ہونگے، یہ اس کے اندر بڑھایا جائے، بہر حال اس کے متعلق یہ میسر میگزین گزاشات بھنیں تو پھر میں آخر میں پھر بھی آپ کا مشکور ہوں، آپ مہربانی کر کے اس پر خصوصی توجہ فرمائیے۔ اگر آپ واقعتاً یہاں اسلام کو لانا چاہتے ہیں تو اس کو راستہ دیجئے تاکہ اسلام یہاں نافذ ہو۔

جناب چیئر مین: بہت بہت شکریہ! میرے پاس اگلے مقرر کا نام وصی مظہر ندوی صاحب ہیں لیکن میں درخواست کر دوں گا کہ آپ دوسروں کو بھی سن لیں تو پھر میسرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا، آپ ان کا بھی جواب دے سکیں گے۔

مولانا وصی مظہر ندوی: ٹھیک ہے جناب۔

جناب چیئر مین: سید عباس شاہ صاحب۔

سید عباس شاہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب چیئر مین صاحب، شریعت آرڈیننس جو کہ صدر مملکت نے پاس کیا سینیٹ میں پیش ہوا۔ میں یقیناً اس آرڈیننس کو ایک احسن قدم سمجھتا ہوں، جیسے کہ آرڈیننس کی

[Syed Abbas Shah]

اپنی صورت ہے، ہم اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، میں - لیکن اس آرڈیننس پر میں نے اور میرے رفقاء جنہوں نے اس پر رائے دی ہے وہ ایک مفروضی عمل ہے کیوں کہ آئندہ جب شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں اقدام اٹھائے جائیں گے تو ان آراء کو بھی لیا جائے گا جب کہ یہ آرڈی نانس اس اسمبلی میں پیش کیا جائیگا، جناب والا! میں یقیناً اس چیز کو ایک بہت اچھا قدم سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت پاکستان نے ۱۹۸۵ء کے دستور کو پیش کرتے ہوئے قرار داد مفاد کو دستور کا حصہ بنایا اور اس کے بعد سینیٹ نے نویں ترمیمی بل کو پاس کر کے شریعت کے نفاذ کے لیے وہ راستے کھول دیئے جس پر میری رائے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ہمیں قانون سازی کی طرف قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمیں قوانین کو codify کرنے کیلئے قدم اٹھانا چاہیے تھا لیکن میری اپنی رائے میں دو سال پہلے جو بل پیش ہوا میں کسی طور پر اس بل کی کسی یا پیشگی کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نویں ترمیمی بل کے بعد اس آرڈیننس کی پیشگی کی صورت نے اس عمل کو روک دیا جو کہ نفاذ شریعت کی طرف نویں ترمیمی بل اور قرار داد مفاد کی وجہ سے جاری تھا، یہ یقینی بات ہے کہ اس ملک میں دو اڑھائی سو سال سے بغیر لوگوں کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں، اگر مسلمان حکومتیں تھیں وہ بھی آمریت پر مبنی تھیں اور آمر جو ہے وہ ہر چیز، ہر قانون کو اپنے تابع کرنے کی صورت میں لاتا ہے۔ اسلام جس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ شوریٰ ہے اور شوریٰ کو میں جمہوریت کی شکل میں سمجھتا ہوں کیوں کہ جب بھی کوئی قانون آمر کا یا آمریت کا تابع ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی مسلک سے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ اپنے مذہب کا کتنا خیر خواہ ہو، آمریت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ وہ قانون کو اپنے تابع بناتا ہے، جمہوریت

وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہر آدمی کو، ہر باشعور آدمی کو جو اس ملک کا باشندہ ہو یا اس قانون کا تابع ہو وہ جو کمی محسوس کرتا ہو اس کو اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے intellectuals کے ذریعے، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے آگے بڑھا سکتا ہے اور اس پر اپنی آراء پیش کر سکتا ہے اور ملک کا قانون یا جو قانون بھی ہو وہ اس کے مطابق بڑھ سکتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ یورپ میں مسلمانوں کی کم و بیش ساڑھے آٹھ سو سال حکومت رہی اور آج اس علاقے میں ایک مسلمان بھی موجود نہیں ہے جس میں سپین، پرتگال اور جو علاقے بھی تھے اس کی بڑی وجہ اسلام کی کمی نہیں تھی، اسلام کے قانون کی کمی نہیں تھی جس کے متعلق میرا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ وہ ضابطہ حیات ہے کہ جو رہتی دنیا تک صحیح اور مکمل ضابطہ حیات رہے گا، لیکن وہاں پر اسلام، یا مسلمانوں کا نام مٹنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں پر آمریت تھی، بادشاہت تھی اور اسلامی اصولوں کو نہیں اپنایا گیا تھا نہ وہ معاشرہ پیدا کیا گیا تھا جس کے لئے اسلام سامنے آیا میں اس موقع پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عوام اس چیز سے بے نیاز ہیں کہ آپ اسلام کو شریعت بل کے ذریعے لاتے ہیں ترائیم کے ذریعے لاتے ہیں، یا آرڈیننس کے ذریعے لاتے ہیں، عوام آپ سے اسلام، قرآن و سنت کے مطابق نفاذ اسلام چاہتے ہیں۔ اس کے لئے جو راستے اختیار کرنے ہیں وہ ایسے ہونے چاہئیں کہ ہمارے عوام ناامید نہ ہوں جیسے کہ یہ پہلے ناامید ہوئے جو قوم، جو ملک صرف اسلام کے نام پر بنا اور اس ملک پاکستان کا نام جو ہم نے اس وقت سنا جس وقت ہم بچے تھے، آج بھی کہ پاکستان کا مطلب

[Syed Abbas Shah]

کیا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ ، اس سے لوگ ناامید ہو گئے ، اس نعرے سے ناامید ہو گئے ، کیا یہ اسلام کی کمی تھی یا ہماری کمی تھی ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ نسل فیصل ہو رہی ہے کہ اس ملک کو ہم وہ نعرہ دے سکیں۔ آج ۱۹۸۸ء میں ہم الیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو اسلام کے نام پر ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے رہا۔ برادری، ریجنل ازم اور اس میں پلیسہ جو ہے اس کا عنصر آگیا ہے کیوں کہ عوام اس نعرے سے، اس آواز سے ناامید ہو گئے یہ ہمارے لیے اور آئندہ ہمارے متعلق جب تاریخ لکھی جائے گی باعث شرم ہے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مقتندہ اور عوام نے ہم پر جو فہم داری عائد کی ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھیں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے۔ اپنے عوام کو تو چھوڑیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے سکیں گے۔ ہم نے اسلام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے۔

جناب والا! ہم سب سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں وہ موقع ملا وہ موقع فراہم کیا گیا کہ ہم اس ضابطہء حیات کو اپنے عوام کے سامنے پیش کریں جس کو ہم سب سے بہترین سب سے اعلیٰ ترین قانون سمجھتے ہیں جس کو اللہ کا قانون سمجھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک force ہے اگر آج ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس کے لیے آگے نہ بڑھ سکے تو یقیناً ہم اس ملک کی تباہی ، اپنی قوم کی تباہی اور اپنی ذات کی تباہی اور ہر چیز کی تباہی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب والا! جن بحثوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں دو سال سے یہاں پر جو بحث ہوتی رہی ہے اس کو میں صرف رکاوٹ ہی سمجھتا ہوں جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کو

اس حد تک پورا کیا جائے جیسے کہ نواں ترمیمی بل جہاں ہم آگے رک جانے  
ہیں۔ ایجیبلیشن میں یا codification میں فرق آرہا ہے تو ہمیں چاہیے  
کہ اس وقت جو بھی آرڈیننس کی ضرورت ہو یا اس وقت جو بل کی ضرورت ہو  
اس کو آگے بڑھائیں۔ خدا را آگے بڑھئے ہم اس نظام کو اس طریقہ  
کو آگے بڑھائیں تاکہ اس صدی کے عوام کی ضروریات  
کے مطابق ہم وہ نظام وہ معاشرہ پیدا کر سکیں جو اسلام کا صحیح آئینہ دار ہو۔

جناب والا! خالی سزاؤں پر depend کرنے سے جرائم رک  
نہیں جاتے جرائم تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے  
زمانے میں بھی جرائم ہوتے رہے ہیں اور سزائیں اس لیے مقرر  
کی گئیں کہ جرائم ہوں گے۔ جناب والا! اپنے نظام شریعت کو اس وقت  
اس حد تک محدود کرنا کہ صرف جرموں کی سزا کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے  
بلکہ ہمیں اس معاشرے کی طرف اس تعلیمی نظام کی طرف، اپنے اس اخلاق  
اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جو کہ اسلام نے وضع کیا ہوا ہے۔ قاضی  
صاحب نے جو ترامیم پیش کی ہیں میں ان میں شریک ہوں۔ میں نے قاضی صاحب  
کی ترامیم پر دستخط بھی کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آئندہ جو بھی قدم  
لیا جائے آرڈیننس کی صورت میں ہو یا بل کی صورت میں ان ترامیم کو  
اس میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کی بڑی  
زبردست سفارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو system of training  
institutions یعنی تربیت کا ادارتی نظام ہے جہاں سے  
اس ملک پر حکومت چلائی جاتی ہے جس کو Academies کہتے ہیں۔

[Syed Abbas Shah]

سول سروس اکیڈمی ، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج ، ملٹری اکیڈمی ان کو صحیح طور پر اور واضح طور پر اسلامی نظام کے مطابق ڈھالنا چاہئے کیونکہ ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے کچھ دوستوں نے تعلیم کے متعلق ذکر کیا تھا۔ اس آرڈیننس میں تعلیمی کمیشن اور معاشی نظام کے متعلق آرڈیننس میں گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ ہمارے کمیشن مقرر ہوں لیکن میں یہ بھی ضروری سمجھوں گا ہماری جو بھی اکیڈمیز ہیں جہاں سے ہمارے ملک کا روزگار چلایا جاتا ہے۔ بینکنگ اکیڈمی وغیرہ ان کو اسلامی نظام کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔

جناب والا! ایک بہت اہم پہلو ہمارے مالیاتی قوانین میں اور اقتصادی نظام ہے آرڈیننس میں دو شق جو کہ غیر ملکی قرضوں کے متعلق ہیں میں ان کو اس صورت میں لوں گا۔ اسلام میں وعدے کو بھی نبھانا چاہیے اور وعدے کے مطابق اس آرڈیننس میں ان کی شمولیت کی فی الحال اس موقع پر تعریف کروں گا اور یہ سفارش کروں گا کہ ہمارے جو کمیشن بنیں گے مثلاً معاشی کمیشن جو معاشی نظام کو اسلامی طریقے پر ترقی دے گا۔ چند تجاویز اس کمیشن کو بھیجے کے لیے میں خود کچھ تیاری کر رہا ہوں۔ باہر کے ملکوں سے ہمارا جو لین دین ہے اس کے متعلق مختلف رائے بھی آئی ہوئی ہیں۔ جناب آپ نے بھی خود اس پر کافی کام کیا ہوا ہے اور ہم کافی آگے بڑھے ہیں۔ پچھلے دو سال سے ہم نے جو بحث یہاں شرع کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مل درآمد پر کافی فرق پڑ رہا ہے ،

ہمیں ایکشن چاہیے نہ کہ بحث کی ضرورت ہے۔ میں یقیناً کہوں گا کہ آٹھ سالہ مارشل لاء کے دور میں مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یا صدر صاحب کے غیر جمہوری ایکشن کی میں تعریف نہیں کروں گا لیکن اسلام کی طرف انہوں نے جو اقدام اٹھائے ہیں ان کو یقیناً میں تعریف کی نظروں سے دیکھتا ہوں کہ پچھلے گیارہ سال میں جو کام ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اور جو چیز تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف کی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں انہوں نے کافی بڑا کام کیا ہے اور میں ان کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کیوں کہ اس نظریاتی کونسل میں ایسے نام شامل ہیں جو کہ پاکستان میں صحیح اسلامی شریعت کے نفاذ کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور ان کی سفارشات کو اب آگے بڑھانا چاہیے، کوڈیفائی کرنا چاہیے۔ ان الفاظ پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ!

جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ میرے خیال میں

It may not be possible to continue further.

تو اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔

So, the House stands adjourned to meet again on Monday at 10.00 a.m. as a Private Members' Day.

[The House adjourned to meet again at ten of the clock in the morning on Monday, the 15th August, 1988].

